

قرآن مجید

لفظی ترجمہ

عَمَّ

پارہ-30

eParah

آيَاتُهَا: 40

78 سُورَةُ النَّبَا مَكِّيَّةٌ 80

رُكُوعَاتُهَا: 2

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَمَّ	يَتَسَاءَلُونَ ① ج	عَنِ النَّبَا	الْعَظِيمِ ② ل	الَّذِي
کس چیز کے بارے میں	وہ آپس میں سوال کر رہے ہیں	اس خبر کے بارے میں	جو بہت بڑی ہے	وہ جو
هُمْ فِيهِ	مُخْتَلِفُونَ ③ ط	كَلَّا	سَيَعْلَمُونَ ④ ل	ثُمَّ كَلَّا
وہ اس میں	اختلاف کرنے والے ہیں	ہرگز نہیں	عنقریب وہ جان لیں گے	پھر ہرگز نہیں
سَيَعْلَمُونَ ⑤	الْم	نَجْعَلِ	الْأَرْضَ	مِهْدًا ⑥ ل
عنقریب وہ جان لیں گے	کیا نہیں	ہم نے بنایا	زمین کو	بچھونا
أَوْتَادًا ⑦ ط	وَ خَلَقْنَاكُمْ	أَزْوَاجًا ⑧ ل	وَجَعَلْنَا	نَوْمَكُمْ
میخیں	اور پیدا کیا ہم نے تمہیں	جوڑا جوڑا	اور بنایا ہم نے	تمہاری نیند کو
وَجَعَلْنَا	الَّيْلَ	لِبَاسًا ⑩ ل	وَجَعَلْنَا	النَّهَارَ
اور بنایا ہم نے	رات کو	لباس	اور بنایا ہم نے	دن کو
فَوْقَكُمْ	سَبْعًا	سُدَادًا ⑫ ل	وَجَعَلْنَا	سِرَاجًا
اوپر تمہارے	سات	مضبوط (آسمان)	اور بنایا ہم نے	ایک چراغ
مِنَ الْمُعْصِرَاتِ	مَاءً	ثَجَاجًا ⑭ ل	لِنُخْرِجَ	بِهِ
بدلیوں سے	پانی	خوب برسنے والا	تاکہ ہم نکالیں	اس سے
وَجَنَّتِ	الْأَفَاقُ ⑯ ط	إِنَّ	يَوْمَ	الْفُضْلِ
اور بانگات	گھنے	بے شک	دن	فیصلے کا
يُنْفَخُ	فِي الصُّورِ	فَتَاتُونَ	أَفْوَاجًا ⑱ ل	وَفُتِحَتِ
پھونک دیا جائے گا	صویر میں	تو تم آؤ گے	فوج درفوج	اور کھول دیا جائے گا
				السَّهَاءِ
				آسمان

فَكَانَتْ	أَبْوَابًا ¹⁹	وَسِيرَتِ	الْجِبَالُ	فَكَانَتْ	سَرَابًا ²⁰	إِنَّ
تو وہ ہو جائے گا	دروازے دروازے	اور چلا دیئے جائیں گے	پہاڑ	تو وہ ہو جائیں گے	سراب	بے شک
جَهَنَّمَ	كَانَتْ	مِرْصَادًا ²¹	لِلطَّاغِيْنَ	مَا بَأْسًا ²²	لِبَشِيْرٍ	فِيهَا
جہنم	ہے	ایک گھات	سرکشوں کے لیے	ٹھکانہ	بیشمار رہنے والے ہیں	اس میں
أَحْقَابًا ²³	لَا يَذُوقُونَ	فِيهَا	بَرْدًا	وَلَا	شَرَابًا ²⁴	إِلَّا حَيْبًا
مدتوں	نہ وہ چکھیں گے	اس میں	کوئی ٹھنڈک	اور نہ	کوئی پینے کی چیز	مگر کھولتا پانی
وَأَسْفَاكًا ²⁵	جَزَاءً	وَفَاكًا ²⁶	إِنَّهُمْ	كَانُوا	لَا يَرْجُونَ	حِسَابًا ²⁷
اور بہتی پیپ	بدلہ ہے	پورا پورا	بے شک وہ	تھے وہ	نہ وہ امید رکھتے	حساب کی
وَكَذَّبُوا	بِآيَاتِنَا	كِدَابًا ²⁸	وَكُلَّ	شَيْءٍ	أَحْصَيْنَاهُ	كِتَابًا ²⁹
اور انہوں نے جھٹلایا	ہماری آیات کو	بہت جھٹلانا	اور ہر	چیز کو	شمار کر رکھا ہے ہم نے اسے	ایک کتاب میں
فَذُوقُوا	فَلَنْ	نَزِيدَكُمْ	إِلَّا	عَذَابًا ³⁰	إِنَّ	لِلْمُتَّقِينَ
پس چکھو	پس ہرگز نہ	ہم زیادہ دیں گے تمہیں	مگر	عذاب	بے شک	متقی لوگوں کے لیے
مَفَازًا ³¹	حَدَائِقَ	وَأَعْنَابًا ³²	وَكَوَاعِبَ	أَثْرَابًا ³³	وَكَأْسًا	
کامیابی ہے	باغات	اور انگوریں	اور ابھری چھاتیوں والیاں	ہم عمر	اور جام	
دِهَاقًا ³⁴	لَا يَسْعُونَ	فِيهَا	لَعْوًا	وَلَا	كِدَابًا ³⁵	جَزَاءً
چھلکتے ہوئے	نہ وہ سنبھلے گے	اس میں	کوئی لغو	اور نہ	کوئی جھوٹ	بدلہ ہے
مِّن رَّبِّكَ	عَطَاءً	حِسَابًا ³⁶	رَّبِّ	السَّمَوَاتِ	وَالْأَرْضِ	وَمَا
آپ کے رب کی طرف سے	عطیہ	کفایت کرنے والا کافی	جورب ہے	آسمانوں	اور زمین کا	اور جو
بَيْنَهُمَا	الرَّحْمٰنِ	لَا يَبْلُغُونَ	مِنْهُ	خَطَابًا ³⁷	يَوْمَ	يَقُومُ
درمیان ہے ان دونوں کے	جورحمن ہے	نہ وہ مالک ہوں گے	اس سے	بات کرنے کے	جس دن	کھڑے ہوں گے

الرُّوحُ	وَالْبَلِيَّةُ	صَفًا	لَا يَتَكَلَّمُونَ	إِلَّا	مَنْ	أَذِنَ
روح الامین	اور فرشتے	صف درصف	نہ وہ کلام کر سکیں گے	مگر	وہ جو	اجازت دے
لَهُ	الرَّحْمَنُ	وَقَالَ	صَوَابًا	ذَلِكَ	الْيَوْمَ	الْحَقُّ
اس کو	رحمن	اور وہ کہے	بات درست	یہ ہے	دن	برحق
فَمَنْ	شَاءَ	اتَّخَذَ	إِلَىٰ رَبِّهِ	مَأْبًا	إِنَّا	أَنْذَرْنَاكُمْ
پس جو کوئی	چاہے	بنالے	طرف اپنے رب کے	ٹھکانہ	بے شک ہم	ڈرا دیا ہے ہم نے تمہیں
قَرِيبًا	يَوْمَ	يَنْظُرُ	الْمَرْءُ	مَا	قَدَّمَتْ	يَدَاهُ
قریب کے	جس دن	دیکھے گا	انسان	جو	آگے بھیجا	اس کے دونوں ہاتھوں نے
وَيَقُولُ	الْكَفْرُ	يَلِيَّتِي	كُنْتُ	تُرَابًا		
اور کہے گا	کافر	اے کاش کہ میں	ہوتا میں	مٹی		
46 آيَاتُهَا: 79 سُورَةُ النُّزْعَةِ مَكِّيَّةٌ 81 رُكُوعَاتُهَا: 2						
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ						
وَالنُّزْعَةُ	غَرْقًا	وَالنُّشْطُ	نَشْطًا			
قسم ہے (ان فرشتوں کی) جو کھینچنے والے ہیں	ڈوب کر	اور جو آسانی سے نکالنے والے ہیں	آسانی سے نکالنا			
وَالسَّبِيحَةُ	سَبْحًا	فَالسَّبِيحَةُ	سَبْقًا	فَالْمَدْبَرَةُ		
اور جو تیرنے والے ہیں	تیزی سے تیرنا	پھر جو سبقت کرنے والے ہیں	سبقت کرنا	پھر جو تہمت دہر کرنے والے ہیں		
أَمْرًا	يَوْمَ	تَرْجُفُ	الرَّاجِفَةُ	تَتَّبِعُهَا	الرَّادِفَةُ	
کسی کام کی	جس دن	کانپنے گی	کانپنے والی	پچھے آئے گی اس کے	پچھے آنے والی	
قُلُوبُ	يَوْمَئِذٍ	وَأَجْفَةٌ	أَبْصَارُهَا	خَاشِعَةٌ	يَقُولُونَ	
کچھ دل	اس دن	دھڑکنے والے ہوں گے	نگاہیں ان کی	بھگی ہوئی ہوں گی	وہ کہتے ہیں	

عَاِنَا	لَمَرْدُوْدُوْنَ	فِي الْحَاْفِرَةِ ⑩	ءَاِذَا	كُنَّا	عِظَاْمًا
کیا بے شک ہم	البتہ پھیرے جانے والے ہیں	پہلی حالت میں	کیا جب	ہوں گے ہم	ہڈیاں
نُخْرَةً ⑪	قَالُوْا	تِلْكَ	اِذَا	كُرَّةٌ	خَاْسِرَةٌ ⑫
بوسیدہ	انہوں نے کہا	یہ	تب	واپسی ہے	خسارے کی
زَجْرَةً ⑬	وَاحِدَةً ⑬	فَاِذَا	هُمُ	بِالسَّاهِرَةِ ⑭	هَلْ
ڈانٹ ہوگی	ایک ہی	تو اچانک	وہ	میدان میں ہوں گے	کیا
مُوسَى ⑮	اِذْ	نَادَاهُ	رَبُّهُ	بِالْوَادِ الْبُقْدَسِ	طُوًى ⑯
موسیٰ کی	جب	پکارا اسے	اس کے رب نے	مقدس وادی میں	طوی کی
اِلَى فِرْعَوْنَ	اِنَّهُ	طَغَى ⑰	فَقُلْ	هَلْ	لَّكَ
طرف فرعون کے	بے شک وہ	وہ سرکش ہو گیا ہے	پس کہو	کیا ہے	تجھے (خوابش) طرف اس کے کہ
تَزَكَّى ⑱	وَ اِهْدِيْكَ	اِلَى رَبِّكَ	فَتَخَشَى ⑲	فَاَرَاهُ	الْاٰیَةَ
توپاک ہو جائے	اور میں راہ نمائی کروں تیری	طرف تیرے رب کے	پھر تو ڈرے	پس اس نے دکھائی اسے	نشانی
الْكُبْرَى ⑳	فَكَذَّبَ	وَعَصَى ㉑	ثُمَّ	اَدْبَرَ	يَسْعَى ㉒
بہت بڑی	تو اس نے جھٹلادیا	اور اس نے نافرمانی کی	پھر	وہ پلٹا	کوشش کرتے ہوئے
فَنَادَى ㉓	فَقَالَ	اَنَا	رَبُّكُمْ	الْاَعْلَى ㉔	فَاَخَذَهُ
پھر اس نے پکارا	پھر اس نے کہا	میں	رب ہوں تمہارا	سب سے بلند	تو پکڑ لیا اسے
الْاٰخِرَةِ	وَالْاٰوَلَى ㉕	اِنَّ	فِيْ ذٰلِكَ	لَعِبْرَةً	لِّسِنَّ
آخرت	اور دنیا کے	بے شک	اس میں	یقیناً عبرت ہے	اس کے لیے جو
ءَاَنْتُمْ	اَشَدُّ	خُلُقًا	اَمْ	السَّمَاٰطُ	بِنَهَا ㉗
کیاتم	زیادہ سخت ہو	تخلیق میں	یا	آسمان	اس نے بنایا اسے

وقف الاثر

وقف الاثر

ع 26
3

فَسَوَّيْهَا 28	وَاعْطَشَ لِيْلَهَا	وَاخْرَجَ صُحْبَهَا 29	وَالْأَرْضُ
پھر اس نے درست کر دیا سے	اور اس نے تاریک کیا	اس کی دھوپ کو	اور زمین کو
بَعْدَ ذَلِكَ	دَحْبَهَا 30	اخْرَجَ مِنْهَا	مَاءَهَا وَمَرْعَهَا 31
بعد اس کے	اس نے پھیلا دیا سے	اس نے نکالا	اس سے پانی اس کا اور چارہ اس کا
وَالْجِبَالِ	أَرْسَهَا 32	مَتَاعًا لَكُمْ	وَلِإِنْعَامِكُمْ 33
اور پہاڑوں کو	اس نے گاڑ دیا انہیں	فائدے کا سامان ہے تمہارے لیے	اور تمہارے مویشیوں کے لیے
جَاءَتِ الطَّامَّةُ الْكُبْرَى 34	يَوْمَ يَتَذَكَّرُ الْإِنْسَانُ مَا سَعَى 35	وَبُرْزَتِ	وَبُرْزَتِ الْجَحِيمُ لِمَنْ لَيْسَ يَرَى 36
آفت آجائے گی	بہت بڑی اس دن یاد کرے گا انسان جو اس نے کوشش کی	اور ظاہر کر دی جائے گی	جہنم اس کے لیے جو دیکھتا ہے تو رہا وہ جس نے سرکشی کی
وَإِثْرَ الْحَيَاةِ الدُّنْيَا 38	فَإِنَّ الْجَحِيمَ هِيَ الْبَاوِي 39	وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى 40	فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْبَاوِي 41
اور اس نے ترجیح دی زندگی کو	دنیا کی تو بے شک جہنم وہی ٹھکانہ ہے (اس کا) اور رہا	وہ جو ڈرا کھڑے ہونے سے اپنے رب کے (سامنے) اور اس نے روک لیا نفس کو خواہشات سے	تو یقیناً جنت وہی ٹھکانہ ہے (اس کا) وہ سوال کرتے ہیں آپ سے قیامت کے بارے میں
أَيَّانَ مَرْسَهَا 42	فِيْمَ أَنْتَ مِنْ ذِكْرِهَا 43	إِلَى رَبِّكَ	مُنْتَهَاهَا 44
کب ہے ٹھہرنا اس کا	کس (فکر) میں ہیں آپ اس کے ذکر سے	طرف آپ کے رب کے	انتہا ہے اس کی
مُنْتَهَاهَا 44	إِنَّمَا أَنْتَ مُنْذِرٌ مَنْ يَخْشَاهَا 45	كَانَهُمْ	
بے شک آپ تو ڈرانے والے ہیں اسے جو ڈرتا ہوا اس سے گویا کہ وہ			

يَوْمَ	يَرُونَهَا	لَمْ	يَلْبَثُوا	إِلَّا	عَشِيَّةً	أَوْ	ضُحَاهَا	ع
جس دن	وہ دیکھیں گے اسے (تو کہیں گے)	نہیں	وہ ٹھہرے	مگر	پچھلا پھر	یا	پہلا پھر اس کا	

آيَاتُهَا: 42	سُورَةُ عَبَسَ مَكِّيَّةٌ 80	رُكُوعُهَا: 1
---------------	------------------------------	---------------

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

عَبَسَ	وَتَوَلَّى	أَنْ	جَاءَهُ	الْأَعْيَى	وَمَا	يُدْرِيكَ
اس نے تیوری چڑھائی	اور اس نے منہ پھیر لیا	کہ	آیا اس کے پاس	ایک ناپینا	اور کیا چیز	بتائے آپ کو

لَعَلَّهُ	يَذْكُرُ	فَتَنْفَعَهُ	الذِّكْرَى	أَمَّا	مَنْ
شاید کہ وہ	وہ نصیحت پکڑتا	تو فائدہ دیتی اسے	نصیحت	رہا	وہ جو

اسْتَعْنَى	فَأَنْتَ	لَهُ	تَصَدَّى	وَمَا	عَلَيْكَ	إِلَّا	يَذْكُرُ
بے پروائی کرتا ہے	تو آپ	اس کے لیے	آپ توجہ کرتے ہیں	حالات نہ نہیں	آپ پر (ذمہ داری)	کہ نہیں	وہ پاک ہوتا

وَأَمَّا	مَنْ	جَاءَكَ	يَسْئَلُ	وَهُوَ	يَخْشَى	فَأَنْتَ	عَنْهُ
اور رہا	وہ جو	آیا ہے آپ کے پاس	کوشش کرتا ہوا	اور وہ	وہ ڈرتا ہے	تو آپ	اس سے

تَلَهَّى	كَلَّا	إِنَّهَا	تَذْكِرَةٌ	فَمَنْ	شَاءَ	ذَكَرَهُ
آپ بے رخی برتتے ہیں	ہرگز نہیں	بے شک وہ	ایک نصیحت ہے	تو جو کوئی	چاہے	نصیحت حاصل کرے اس سے

فِي صُحُفٍ	مُكْرَمَةٍ	مَرْفُوعَةٍ	مُطَهَّرَةٍ	بِأَيْدِي	سَفَرَةٍ
صحیفوں میں ہے	عزت دیئے گئے	بلند مرتبہ	نہایت پاکیزہ	ہاتھوں میں ہے	لکھنے والوں کے

كِرَامٍ	بَرَرَةٍ	قُتِلَ	الْإِنْسَانُ	مَا أَكْفَرَهُ	مِنْ أَيْ شَيْءٍ	خَلَقَهُ
معزز	نیوکار	مارا جائے	انسان	کس قدر ناشکرا ہے وہ	کس چیز سے	اس نے پیدا کیا اسے

مِنْ نُطْفَةٍ	خَلَقَهُ	فَقَدَّرَهُ	ثُمَّ	السَّبِيلَ	يَسَّرَهُ
ایک نطفے سے	اس نے پیدا کیا اسے	پھر اس نے تقدیر مقرر کی اس کی	پھر	راستہ	اس نے آسان کیا اس کا

ثُمَّ	أَمَاتَهُ	فَأَقْبَرَهُ ^{لا} 21	ثُمَّ	إِذَا	شَاءَ	أَنْشَرَهُ ^ط 22	كَلَّا	لَبَّا
پھر	اس نے موت دی اسے	پھر اس نے قبر دی اسے	پھر	جب	وہ چاہے گا	وہ اٹھا کھڑا کرے گا اسے	ہرگز نہیں	ابھی تک نہیں
يَقْضِ	مَا	أَمَرَهُ ^ط 23	فَلْيَنْظُرِ	الْإِنْسَانَ	إِلَى	طَعَامِهِ ^{لا} 24	أَبَا	
اس نے پورا کیا	جو	اس نے حکم دیا تھا اسے	پس چاہیے کہ دیکھے	انسان	طرف اپنے کھانے کے	بے شک ہم		
صَبَبْنَا	الْبَاءَ	صَبًّا ^{لا} 25	ثُمَّ	شَقَقْنَا	الْأَرْضَ	شَقًّا ^{لا} 26	فَأَنْبَتْنَا	
انڈیلا ہم نے	پانی	خوب انڈیلنا	پھر	پھاڑی ہم نے	زمین	خوب پھاڑنا	پھر اگا یا ہم نے	
فِيهَا	حَبًّا ^{لا} 27	وَعِنَبًا	وَقَضْبًا ^{لا} 28	وَزَيْتُونًا	وَنَخْلًا ^{لا} 29	وَوَادِيًا	وَحَدَائِقَ	
اس میں	غلہ	اور انگور	اور ترکاری	اور زیتون	اور کھجور	اور باغات		
غُلْبًا ^{لا} 30	وَوَاكِهَةً	وَأَبًّا ^{لا} 31	مَتَاعًا	لَكُمْ	وَلِإِنْعَامِكُمْ ^ط 32			
گھنے	اور پھل	اور چارہ	فائدے کی چیزیں ہیں	تمہارے لیے	اور تمہارے مویشیوں کے لیے			
فَإِذَا	جَاءَتِ	الصَّاحَةُ ^ح 33	يَوْمَ	يَفِرُّ	الرَّءُ	مِنْ	أَخِيهِ ^{لا} 34	
تو جب	آجائے گی	کان بہا کر دینے والی سخت آواز	اس دن	بھاگے گا	انسان	اپنے بھائی سے		
وَأُمَّهُ	وَأَبِيهِ ^{لا} 35	وَصَاحِبَتِهِ	وَبَنِيهِ ^ط 36	لِكُلِّ	أَمْرٍ	مِنْهُمْ		
اور اپنی ماں سے	اور اپنے باپ سے	اور اپنی بیوی سے	اور اپنے بیٹوں سے	واسطے ہر	شخص کے	ان میں سے		
يَوْمَئِذٍ	شَانُ	يُغْنِيهِ ^ط 37	وَجُوهٌ	يَوْمَئِذٍ	مُسْفِرَةٌ ^{لا} 38			
اس دن	ایسی حالت ہوگی	جو بے پرواہ کر دے گی اسے	کچھ چہرے	اس دن	روشن ہوں گے			
ضَاحِكَةٌ	مُسْتَبْشِرَةٌ ^ج 39	وَوَجُوهٌ	يَوْمَئِذٍ	عَلَيْهَا	غَبْرَةٌ ^{لا} 40			
ہنستے ہوں گے	خوش خبری پانے والے ہوں گے	اور کچھ چہرے	اس دن	ان پر	غبار ہوگا			
تَرْهَقُهَا	قَتَرَةٌ ^ط 41	أُولَئِكَ	هُمْ	الْكُفْرَةَ	الْفَجْرَةَ ^ع 42			
چھارہی ہوگی ان پر	سیاہی	یہی لوگ ہیں	وہ	جو کافر ہیں	فاجر ہیں			

اَيَاتُهَا: 29		81 سُورَةُ التَّكْوِيْرِ مَكِّيَّةٌ 7				رُكُوْعُهَا: 1	
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيْمِ							
اِذَا	الشَّمْسُ	كُوْرَتْ ①	وَإِذَا	النُّجُوْمُ	انْكَدَرَتْ ②	وَإِذَا	
جب	سورج	لپیٹ دیا جائے گا	اور جب	ستارے	بے نور ہو جائیں گے	اور جب	
الْجِبَالُ	سِيْرَتْ ③	وَإِذَا	الْعِشَارُ	عُطِلَّتْ ④	وَإِذَا	الْوَحْشُ	
پہاڑ	چلا دیئے جائیں گے	اور جب	دس ماہ کی حاملہ اونٹنیاں	بے کار چھوڑ دی جائیں گی	اور جب	وحشی جانور	
حُشِرَتْ ⑤	وَإِذَا	الْبِحَارُ	سُجِرَتْ ⑥	وَإِذَا	النُّفُوسُ	زُوْجَتْ ⑦	
اکٹھے کر دیئے جائیں گے	اور جب	سمندر	بھڑکا دیئے جائیں گے	اور جب	جانیں	جوڑ دی جائیں گی	
وَإِذَا	الْبُوءَدَةُ	سُيْلَتْ ⑧	بِأَيِّ	ذَنْبٍ	قُتِلَتْ ⑨	وَإِذَا	الْصُّحُفُ
اور جب	زندہ گاڑی ہوئی لڑکی	پوچھی جائے گی	بوجہ کس	گناہ کے	وہ ماری گئی	اور جب	اعمال نامے
نُشِرَتْ ⑩	وَإِذَا	السَّمَاءُ	كُشِطَتْ ⑪	وَإِذَا	الْبَحِيْمُ	سُعِرَتْ ⑫	
پھیلا دیئے جائیں گے	اور جب	آسمان	(اس کی) کھال اتار دی جائے گی	اور جب	جہنم	بھڑکا دی جائے گی	
وَإِذَا	الْجَنَّةُ	أُزْلِفَتْ ⑬	عَلِبَتْ	نَفْسٌ	مَّا	أَحْضَرَتْ ⑭	فَلَا
اور جب	جنت	قریب لے آئی جائے گی	جان لے گا	ہر نفس	جو	اس نے حاضر کیا	پس نہیں
أُقْسِمُ	بِالْخُسِّ ⑮	الْجَوَارِ	الْكُتِّ ⑯	وَإِلَى	إِذَا		
میں قسم کھاتا ہوں	پچھے ہٹنے والے	چلنے والے	چھپ جانے والے (ستاروں کی)	اور رات کی	جب		
عَسَعَسَ ⑰	وَالصُّبْحِ	إِذَا	تَنَفَّسَ ⑱	إِنَّهُ	لَقَوْلِ	رَسُولٍ	
وہ رخصت ہوتی ہے	اور صبح کی	جب	وہ سانس لیتی ہے	بے شک وہ (قرآن)	یقیناً قول ہے	ایک پیامبر	
كَرِيْمٍ ⑲	ذِي قُوَّةٍ	عِنْدَ	ذِي الْعَرْشِ	مَكِيْنٍ ⑳	مُّطَاعٍ	ثُمَّ	
معزز کا	جو قوت والا ہے	نزدیک	عرش والے کے	بلند مرتبہ ہے	اطاعت کیا جاتا ہے	وہاں	

أَمِينٌ ① ط	وَمَا	صَاحِبِكُمْ	بِسَجُونٍ ② ج	وَلَقَدْ	رَأَاهُ	بِالْأُفُقِ
امانت دار ہے	اور نہیں	ساتھی تمہارا	کوئی مجنون	اور البتہ تحقیق	اس نے دیکھا ہے	آسمان کے کنارے پر
الْبَيِّنِ ③ ج	وَمَا	هُوَ	عَلَى الْغَيْبِ	بِضَنِينٍ ④ ج	وَمَا	هُوَ
کھلے	اور نہیں	وہ	غیب پر	ہرگز، بخیل	اور نہیں ہے	وہ
شَيْطَانٍ	رَّجِيمٍ ⑤ ل	فَإِنَّ	تَذَاهِبُونَ ⑥ ط	إِنْ	هُوَ	إِلَّا ذِكْرٌ
شیطان	مردود کا	پھر کہہ	تم جا رہے ہو	نہیں ہے	وہ	مگر ایک نصیحت
لِّلْعَالَمِينَ ⑦ ل	لِيَنْ	شَاءَ	مِنْكُمْ	أَنْ	يَسْتَقِيمَ ⑧ ط	وَمَا
تمام جہان والوں کے لیے	اس کے لیے جو	چاہے	تم میں سے	یہ کہ	وہ سیدھا چلے	اور نہیں
تَشَاءُونَ	إِلَّا	أَنْ	يَشَاءَ	اللَّهُ	رَبُّ	الْعَالَمِينَ ⑨ ع
تم چاہتے	مگر	یہ کہ	چاہے	اللہ	جو رب ہے	تمام جہانوں کا
82 سُورَةُ الْإِنْفِطَارِ مَكِّيَّةٌ 82 رُكُوعُهَا: 1						
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ						
إِذَا السَّمَاءُ	انْفَطَرَتْ ① ل	وَإِذَا الْكَوَاكِبُ	انْتَثَرَتْ ② ل	وَإِذَا الْبِحَارُ		
جب	آسمان	پھٹ جائے گا	اور جب	ستارے	بکھر جائیں گے	اور جب سمندر
فُجِّرَتْ ③ ل	وَإِذَا	الْقُبُورُ	بُعْثِرَتْ ④ ل	عَلِبَتْ	نَفْسٌ	مَا
پھاڑ دیئے جائیں گے	اور جب	قبریں	کھول دی جائیں گی	جان لے گا	ہر نفس	جو
قَدَّامَتْ	وَآخِرَتْ ⑤ ط	يَا أَيُّهَا	الْإِنْسَانُ	مَا	غَرَّكَ	بِرَبِّكَ
اس نے آگے بھیجا	اور اس نے پیچھے چھوڑا	اے	انسان	کس چیز نے	دھوکے میں ڈالا تجھے	تیرے رب کے بارے میں
الْكَبِيمِ ⑥ ل	الَّذِي	خَلَقَكَ	فَسَوَّكَ	فَعَدَّلَكَ ⑦ ل	فِي	أَيِّ صُورَةٍ
جو بہت عزت والا ہے	وہ جس نے	پیدا کیا تجھے	پھر اس نے درست کیا تجھے	پھر اس نے برابر کیا تجھے	جس صورت میں	

مَا	شَاءَ	رَبَّكَ ⑧ ط	كَلَّا	بَلْ	تُكذِّبُونَ	بِالدِّينِ ⑨ ل	وَإِنَّ
جو	اس نے چاہا	اس نے جوڑ دیا تجھے	ہرگز نہیں	بلکہ	تم جھٹلاتے ہو	بدلے (کے دن) کو	اور بے شک
عَلَيْكُمْ	لَحْفَظِينَ ⑩ ل	كِرَامًا	كَاتِبِينَ ⑪ ل	يَعْلَمُونَ	مَا		
تم پر	یقیناً نگران ہیں	جو معزز	لکھنے والے ہیں	وہ جانتے ہیں	جو کچھ		
تَفْعَلُونَ ⑫ ج	إِنَّ	الْأَبْرَارَ	لَفِي نَعِيمٍ ⑬ ج	وَإِنَّ	الْفُجَّارَ		
تم کرتے ہو	بے شک	نیک لوگ	یقیناً نعمتوں میں ہوں گے	اور بے شک	بدکار لوگ		
لَفِي جَحِيمٍ ⑭ ط	يَصْلُونَهَا	يَوْمَ	الدِّينِ ⑮ ج	وَمَا	هُمْ		
یقیناً جہنم میں ہوں گے	وہ چلیں گے اس میں	دن	بدلے کے	اور نہیں	وہ		
عَنْهَا	بِغَائِبِينَ ⑯ ط	وَمَا	أَدْرَاكَ	مَا	يَوْمَ	الدِّينِ ⑰ ل	ثُمَّ
اس سے	کبھی غائب ہونے والے	اور کیا چیز	بتائے آپ کو	کیا ہے	دن	بدلے کا	پھر
مَا	أَدْرَاكَ	مَا	يَوْمَ	الدِّينِ ⑱ ط	يَوْمَ	لَا تَبْلُكُ	نَفْسٌ
کیا چیز	بتائے آپ کو	کیا ہے	دن	بدلے کا	جس دن	نہ مالک ہوگا	کوئی نفس
لِنَفْسٍ	شَيْئًا ط	وَالْأَمْرُ	يَوْمَئِذٍ	لِللَّهِ ⑲ ع			
کسی نفس کے لیے	کچھ بھی	اور حکم	اس دن	اللہ ہی کا ہوگا			
آيَاتُهَا: 36 83 سُورَةُ الْمُطَفِّفِينَ مَكِّيَّةٌ 86 رُكُوعُهَا: 1							
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ							
وَيْلٌ	لِّلْمُطَفِّفِينَ ① ل	الَّذِينَ	إِذَا	اُكْتَلُوا	عَلَى النَّاسِ		
ہلاکت ہے	ناپ تول میں کمی کرنے والوں کے لیے	وہ لوگ	جب	وہ ناپ کر لیتے ہیں	لوگوں سے		
يَسْتَوْفُونَ ② ط	وَإِذَا	كَالْوَهْمِ	أَوْ	وَزَنُوهُمْ	يُخْسِرُونَ ③ ط		
وہ پورا پورا لیتے ہیں	اور جب	وہ ناپ کر دیتے ہیں انہیں	یا	وہ تول کر دیتے ہیں انہیں	وہ کم دیتے ہیں		

أَلَا	يُظُنُّ	أُولَئِكَ	أَنَّهُمْ	مَبْعُوثُونَ	لَا	لِيَوْمٍ عَظِيمٍ	لَا	يَوْمٌ
کیا نہیں	یقین رکھتے	یہ لوگ	بے شک وہ	اٹھائے جانے والے ہیں		ایک بڑے دن کے لیے		جس دن
يَقُومُ	النَّاسُ	لِرَبِّ	الْعَالَمِينَ	كَلَّا	إِنَّ	كِتَابَ		
کھڑے ہوں گے	لوگ	رب کے لیے	تمام جہانوں کے	ہرگز نہیں	بے شک	کتاب (نامہ اعمال)		
الْفَجَارِ	لَفِي سَجِينٍ	وَمَا	أَدْرَاكَ	مَا	سَجِينٌ	كِتَابٌ		
بدکاروں کی	یقیناً سجين میں ہے	اور کیا چیز	بتائے آپ کو	کیا ہے	سجين	ایک کتاب ہے		
مَرْجُومٍ	وَيْلٌ	يَوْمَئِذٍ	لِّلْمُكَذِّبِينَ	الَّذِينَ	يُكَذِّبُونَ			
لکھی ہوئی	ہلاکت ہے	اس دن	جھٹلانے والوں کے لیے	وہ جو	جھٹلاتے ہیں			
بِیَوْمِ الدِّينِ	وَمَا	يُكذِّبُ	بِهِ	إِلَّا	كُلُّ	مُعْتَدٍ		
بدلے کے دن کو	اور نہیں	جھٹلاتا	اسے	مگر	ہر	حد سے بڑھنے والا		
أَثِيمٍ	إِذَا	تُثْلَى	عَلَيْهِ	أَيْتْنَا	قَالَ	أَسَاطِيرُ	الْأَوَّلِينَ	
سخت گناہ گار	جب	پڑھی جاتی ہیں	اس پر	آیات ہماری	وہ کہتا ہے	کہانیاں ہیں	پہلوں کی	
كَلَّا	بَلْ	رَانَ	عَلَى قُلُوبِهِمْ	مَا	كَانُوا	يَكْسِبُونَ		
ہرگز نہیں	بلکہ	زنگ چڑھ گیا ہے	ان کے دلوں پر	اس کا جو	تھے وہ	وہ کمائی کرتے		
كَلَّا	إِنَّهُمْ	عَنْ رَبِّهِمْ	يَوْمَئِذٍ	لَمَحْجُوبُونَ	ثُمَّ	إِنَّهُمْ		
ہرگز نہیں	بے شک وہ	اپنے رب سے	اس دن	البتہ حجاب میں رکھے جانے والے ہیں	پھر	بے شک وہ		
لصَالُوا	الْجَحِيمِ	ثُمَّ	يُقَالُ	هَذَا	الَّذِي	كُنْتُمْ	بِهِ	
البتہ جھونکے جانے والے ہیں	جہنم میں	پھر	کہا جائے گا	یہ ہے	وہ چیز	تھے تم	جسے	
تُكذِّبُونَ	إِنَّ	كِتَابَ	الْأَبْرَارِ	لَفِي	عَلِيِّينَ	وَمَا		
تم جھٹلایا کرتے	ہرگز نہیں	بے شک	نیک لوگوں کی	یقیناً علیین میں ہے	اور کیا چیز			

أَدْرِكَ مَا عَلَيَّونَ 19 ط	كِتَابٌ مَّرْقُومٌ 20 لا	يَشْهَدُهُ الْمُقَرَّبُونَ 21 ط	بتائے آپ کو کیا ہے	علیین	ایک کتاب ہے	لکھی ہوئی	حاضر رہتے ہیں اس پر	مقرب (فرشتے)
إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ 22 لا	عَلَى الْأَرَائِكِ يَنْظُرُونَ 23 لا	تَعْرِفُ	بے شک	نیک لوگ	یقیناً نعمتوں میں ہوں گے	مسندوں پر	وہ دیکھ رہے ہوں گے	آپ پہچان لیں گے
فِي وُجُوهِهِمْ نَضْرَةٌ 24 ج	النَّعِيمِ 24 ج	يُسْقُونَ	ان کے چہروں میں	روقت	نعمت کی	وہ پلائے جائیں گے	خالص شراب	مہربند
خِتَهُ مِسْكٌ ط	وَفِي ذَلِكَ	فَلْيَتَنَافَسِ	اس کی مہر	مشک ہوگی	اور اس میں	پس چاہیے کہ ایک دوسرے پر بازی لے جائیں	بازی لے جانے والے	الْمُتَنَافِسُونَ 26 ط
وَمَزَاجُهُ مِنْ تَسْنِيمٍ 27 لا	عَيْنًا	يَشْرَبُ بِهَا	اور آمیزش اس کی	تسنیم سے ہوگی	جو ایک چشمہ ہے	پہیں گے	اس سے	الْمُقَرَّبُونَ 28 ط
إِنَّ الَّذِينَ أَجْرَمُوا كَانُوا مِنَ الَّذِينَ آمَنُوا يَضْحَكُونَ 29 ح	الَّذِينَ آمَنُوا	يَضْحَكُونَ 29 ح	بے شک	وہ جنہوں نے	جرم کیے	تھے وہ	ان لوگوں پر جو	ایمان لائے
وَإِذَا مَرُّوا بِهِمْ يَتَغَامَزُونَ 30 ح	وَإِذَا انْقَلَبُوا إِلَىٰ	أَهْلِهِمْ	اور جب	وہ گزرتے	ان کے پاس سے	وہ ایک دوسرے کو آنکھ سے اشارے کرتے	اور جب	وہ پلٹ کر جاتے
أَهْلِهِمْ انْقَلَبُوا فَاكْفَيْنَ 31 ح	وَإِذَا رَأَوْهُمْ	قَالُوا إِنَّ	اپنے گھروالوں کے	وہ پلٹتے	دل لگی کرتے ہوئے	اور جب	وہ دیکھتے انہیں	وہ کہتے
هَؤُلَاءِ لَضَالُّونَ 32 لا	وَمَا	أُرْسِلُوا عَلَيْهِمْ	یہ لوگ	یقیناً گمراہ ہیں	حالات نہیں	وہ بھیجے گئے تھے	ان پر	نگہبان بنا کر
فَالْيَوْمَ الَّذِينَ آمَنُوا مِنَ الْكُفَّارِ يَضْحَكُونَ 34 لا	عَلَى الْأَرَائِكِ	لَا	پس آج کے دن	وہ لوگ جو	ایمان لائے	کافروں پر	وہ ہنس رہے ہوں گے	مسندوں پر

يَنْظُرُونَ 35 ط	هَلْ	تُوبَ	الْكَفَّارَ	مَا	كَانُوا	يَفْعَلُونَ 36 ع
وہ دیکھ رہے ہوں گے	کیا	بدلہ دینے گئے	کافر	جو	تھے وہ	وہ کیا کرتے

آیاتہا: 25	سُورَةُ الْإِنْشِقَاقِ مَكِّيَّةٌ 84	رُكُوعُهَا: 1
------------	--------------------------------------	---------------

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِذَا السَّمَاءُ انشَقَّتْ 1 ل	وَأَذْنَتْ	لِرَبِّهَا	وَحَقَّتْ 2 ل	وَإِذَا
چھٹ جائے گا	اور وہ کان لگائے ہوئے ہے	اپنے رب کے لیے	اور وہ حق دیا گیا ہے	اور جب

الْأَرْضُ مَدَّتْ 3 ل	وَأَلْقَتْ	مَا فِيهَا	وَتَخَلَّتْ 4 ل	وَأَذْنَتْ
پھیلا دی جائے گی	اور وہ ڈال دے گی	جو کچھ اس میں ہے	اور وہ خالی ہو جائے گی	اور وہ کان لگائے ہوئے ہے

لِرَبِّهَا وَحَقَّتْ 5 ط	يَا أَيُّهَا	الْإِنْسَانُ	إِنَّكَ	كَادِحٌ	إِلَىٰ رَبِّكَ
اپنے رب کے لیے اور وہ حق دی گئی ہے	اے	انسان	بے شک تو	محنت کرنے والا ہے	طرف اپنے رب کے

كَدْحًا فَمُلِقِيهِ 6 ج	فَأَمَّا	مَنْ	أُوْتِيَ	كِتَابَهُ	بِيسِينِهِ 7 ل	فَسَوْفَ
سخت محنت پھر ملنے والا ہے اس سے	تو رہا	وہ جو	دیا گیا	کتاب اپنی	اپنے دائیں ہاتھ میں	تو عنقریب

يَحَاسِبُ حِسَابًا 8 ل	وَيُنْقَلِبُ	إِلَىٰ أَهْلِهِ	مَسْرُورًا 9 ط	وَأَمَّا	
وہ حساب لیا جائے گا	نہایت آسان	اور وہ لوٹے گا	طرف اپنے گھر والوں کے	مسرور/خوش	اور رہا

مَنْ أُوْتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ	ظَهْرِهِ 10 ل	فَسَوْفَ	يَدْعُوا	ثُبُورًا 11 ل			
وہ جو	دیا گیا	کتاب اپنی	پچھے	اپنی پشت کے	تو عنقریب	وہ پکارے گا	ہلاکت کو

وَيَصِلُ سَعِيرًا 12 ط	إِنَّهُ	كَانَ	فِي أَهْلِهِ	مَسْرُورًا 13 ط	إِنَّهُ	ظَنَّ
اور وہ جلے گا	بے شک وہ	تھا وہ	اپنے گھر والوں میں	مسرور/خوش	بے شک وہ	وہ سمجھتا تھا

أَنْ لَّنْ	يَحُورَ 14 ط	بَلَىٰ	إِنَّ	رَبَّهُ	كَانَ	بِهِ	بَصِيرًا 15 ط	
کہ	ہرگز نہیں	وہ لوٹے گا	کیوں نہیں	بے شک	رب اس کا	تھا	اسے	خوب دیکھنے والا

فَلَا	أُقْسِمُ	بِالشَّفَقِ 16	وَالْيَلِ	وَمَا	وَسَقَى 17	وَالْقَمَرِ
پس نہیں	میں قسم کھاتا ہوں	شفق کی	اور رات کی	اور اس کی جسے	وہ سمیٹ لے	اور چاند کی

إِذَا	اتَّسَقَ 18	لَتَرْكَبُنَّ	طَبَقًا	عَنْ طَبَقِي 19	فَمَا	لَهُمْ
جب	وہ پورا ہو جائے	البتہ تم ضرور چڑھتے جاؤ گے	ایک درجہ کو	دوسرے درجے سے	پس کیا ہے	انہیں

لَا يُؤْمِنُونَ 20	وَإِذَا	قُرِئَ	عَلَيْهِمُ	الْقُرْآنُ	لَا يَسْجُدُونَ 21	بِ
نہیں وہ ایمان لاتے	اور جب	پڑھا جاتا ہے	ان پر	قرآن	نہیں وہ سجدہ کرتے	بلکہ

الَّذِينَ	كَفَرُوا	يَكْذِبُونَ 22	وَاللَّهُ	أَعْلَمُ	بِمَا	يُوعُونَ 23
وہ لوگ جنہوں نے	کفر کیا	وہ جھٹلاتے ہیں	اور اللہ	خوب جانتا ہے	اسے جو	وہ سمیٹ رہے ہیں

فَبَشِّرْهُمْ	بِعَذَابِ	الْيَمِّ 24	إِلَّا	الَّذِينَ	آمَنُوا
پس خوش خبری دے دیجیے انہیں	عذاب	دردناک کی	سوائے	ان لوگوں کے جو	ایمان لائے

وَعَمِلُوا	الصَّالِحَاتِ	لَهُمْ	أَجْرٌ	غَيْرٌ	مَمْنُونٍ 25
اور انہوں نے عمل کیے	نیک	ان کے لیے	اجر ہے	نہ	ختم ہونے والا

آيَاتُهَا: 22	سُورَةُ الْبُرُوجِ مَكِّيَّةٌ 27	رُكُوعُهَا: 1
---------------	----------------------------------	---------------

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّيِّئَاتِ	ذَاتِ الْبُرُوجِ 1	وَالْيَوْمِ	الْمُوعَدِ 2	وَشَاهِدِ	وَمَشْهُودِ 3
قسم ہے آسمان	برجوں والے کی	اور دن	وعدہ کیے گئے کی	اور حاضر ہونے والے	اور حاضر کیے ہوئے کی

قُتِلَ	أَصْحَابُ الْأَخْدُودِ 4	النَّارِ	ذَاتِ الْوُقُودِ 5	إِذْ	هُمْ	عَلَيْهَا
مارے گئے	خندقوں والے	جو آگ تھی	اینڈھن والی	جب	وہ	اس پر

قَعُودِ 6	وَهُمْ	عَلَى	مَا	يَفْعَلُونَ	بِالْمُؤْمِنِينَ	شُهُودِ 7	وَمَا
بیٹھے ہوئے تھے	اور وہ	اوپر	اس کے جو	وہ کر رہے تھے	ساتھ مومنوں کے	گواہ تھے	اور نہیں

نَقَبُوا	مِنْهُمْ	إِلَّا	أَنْ	يُؤْمِنُوا	بِاللَّهِ	الْعَزِيزِ	الْحَمِيدِ ⑧	
انہوں نے انتقام لیا	ان سے	مگر	یہ کہ	وہ ایمان لائے	اللہ پر	جو بہت زبردست ہے	خوب تعریف والا ہے	
الَّذِي	لَهُ	مُلْكُ	السَّمَوَاتِ	وَالْأَرْضِ ٭	وَاللَّهُ	عَلَى	كُلِّ	شَيْءٍ
وہ جو	اسی کے لیے ہے	بادشاہت	آسمانوں	اور زمین کی	اور اللہ	اوپر	ہر	چیز کے
شَهِيدًا ⑨	إِنَّ	الَّذِينَ	فَتَنُوا	الْمُؤْمِنِينَ	وَالْمُؤْمِنَاتِ	ثُمَّ		
گواہ ہے	بے شک	وہ لوگ جنہوں نے	آزمائش میں ڈالا	مومن مردوں کو	اور مومن عورتوں کو	پھر		
لَمْ	يَتُوبُوا	فَلَهُمْ	عَذَابُ	جَهَنَّمَ	وَلَهُمْ	عَذَابُ	الْحَرِيقِ ⑩	
نہ	انہوں نے توبہ کی	تو ان کے لیے	عذاب ہے	جہنم کا	اور ان کے لیے	عذاب ہے	جلنے کا	
إِنَّ	الَّذِينَ	آمَنُوا	وَعَمِلُوا	الصَّالِحَاتِ	لَهُمْ	جَنَّاتُ	تَجْرِي	
بے شک	وہ جو	ایمان لائے	اور انہوں نے عمل کیے	نیک	ان کے لیے	باغات ہیں	بہتی ہیں	
مِنْ	تَحْتِهَا	الْأَنْهَارُ ٭	ذَلِكَ	الْفَوْزُ	الْكَبِيرُ ⑪	إِنَّ	بَطْشَ	
ان کے نیچے سے	نہریں	یہ	کامیابی ہے	بہت بڑی	بے شک	پڑ		
رَبِّكَ	لَشَدِيدٌ ⑫	إِنَّهُ	هُوَ	يُبْدِئُ	وَيُعِيدُ ⑬	وَهُوَ	الْغَفُورُ	
آپ کے رب کی	البتہ بہت شدید ہے	بے شک وہ	وہی	پہلی بار پیدا کرتا ہے	اور وہی لوٹائے گا	اور وہی ہے	بہت بخشنے والا	
الْوَدُودُ ⑭	ذُو	الْعَرْشِ	الْبَجِيدُ ⑮	فَعَالٌ	لَبَّاسٌ	يُرِيدُ ⑯	هَلْ	
بہت محبت کرنے والا	عرش والا	بڑی شان والا	کر گزرنے والا	اسے جو	وہ چاہتا ہے	کیا		
أَتَاكَ	حَدِيثٌ	الْجُنُودِ ⑰	فِرْعَوْنُ	وَتَشُودُ ⑱	بَلِ	الَّذِينَ		
آئی آپ کے پاس	خبر	لشکروں کی	فرعون	اور شمود کے	بلکہ	وہ جنہوں نے		
كَفَرُوا	فِي	تَكْذِيبٍ ⑲	وَاللَّهُ	مِنْ	وَرَائِهِمْ	مُحِيطٌ ⑳		
کفر کیا	جھٹلانے میں لگے ہوئے ہیں	اور اللہ	ان کے پیچھے سے (انہیں)	گھیرنے والا ہے				

بَلُّ	هُوَ	قُرْآنٌ	مَجِيدٌ 21	فِي لَوْحٍ مَّحْفُوظٍ 22
بلکہ	وہ	قرآن ہے	بڑی شان والا	لوح محفوظ میں

آيَاتُهَا: 17	سُورَةُ الطَّارِقِ مَكِّيَّةٌ 36	رُكُوعُهَا: 1
---------------	----------------------------------	---------------

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالسَّيِّئَاتِ	وَالطَّارِقِ 1	وَمَا	أَدْرَاكَ	مَا	الطَّارِقِ 2	النَّجْمِ
قسم ہے آسمان کی	اور رات کو آنے والے کی	اور کیا چیز	بتائے آپ کو	کیا ہے	رات کو آنے والا	ستارہ ہے

النَّاقِبِ 3	إِنْ	كُلُّ نَفْسٍ	لَّمَّا	عَلَيْهَا	حَافِظٌ 4	فَلْيَنْظُرِ
چمکتا ہوا	نہیں	کوئی نفس	مگر	ہے اس پر	ایک حفاظت کرنے والا	پس چاہیے کہ دیکھے

الْإِنْسَانِ	مِمَّ	خُلِقَ 5	خُلِقَ	مِنْ مَّاءٍ	دَافِقٍ 6	يَخْرُجُ
انسان	کس چیز سے	وہ پیدا کیا گیا	وہ پیدا کیا گیا	پانی سے	اچھلنے والے	جو نکلتا ہے

مِنْ بَيْنِ الصُّلْبِ	وَالثَّرَائِبِ 7	إِنَّهُ	عَلَى رَجْعِهِ	لَقَادِرٌ 8	يَوْمَ	
درمیان سے	پہنچے	اور سینے کی ہڈیوں کے	بے شک وہ	اس کے لوٹانے پر	یقیناً قادر ہے	جس دن

تُبَلَى	السَّرَائِرِ 9	فَمَا	لَهُ	مِنْ قُوَّةٍ	وَلَا	نَاصِرٍ 10
جانچ پڑتال کی جائے گی	تمام رازوں کی	تو نہیں ہوگی	اس کے لیے	کوئی قوت	اور نہ	کوئی مددگار

وَالسَّمَاءِ	ذَاتِ الرَّجْعِ 11	وَالْأَرْضِ	ذَاتِ الصَّدْعِ 12	إِنَّهُ	لَقَوْلٍ
قسم ہے آسمان کی	جو پلٹنے والا ہے	اور زمین کی	جو پھٹنے والی ہے	بے شک وہ	یقیناً ایک بات ہے

فَصَلِّ 13	وَمَا	هُوَ	بِالْهَزْلِ 14	إِنَّهُمْ	يَكِيدُونَ	كَيْدًا 15
فیصلہ کن	اور نہیں ہے	وہ	کوئی ہنسی مذاق	بے شک وہ	وہ چال چل رہے ہیں	ایک چال

وَآكِيدٌ	كَيْدًا 16	فَمَهْلٍ	الْكَافِرِينَ	أَمَهُمْ	رَوِيدًا 17
اور میں تدبیر کر رہا ہوں	ایک تدبیر	پس مہلت دے دیجیے	کافروں کو	مہلت دینا نہیں	(مہلت) تھوڑی سی

آياتها: 19		سُورَةُ الْأَعْلَى مَكِّيَّةٌ 8				رُكُوعُهَا: 1	
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ							
سَبِّحْ	اسْمَ	رَبِّكَ	الْأَعْلَى ①	الَّذِي	خَلَقَ	فَسَوَى ②	وَالَّذِي
تسبیح کیجیے	نام کی	اپنے رب کے	جو بہت بلند ہے	وہ جس نے	پیدا کیا	پھر اس نے درست کیا	اور وہ جس نے
قَدَّارَ	فَهْدَى ③	وَالَّذِي	أَخْرَجَ	الْمَرْعَى ④	فَجَعَلَهُ	غُنَاءً	
اندازہ کیا	پھر اس نے ہدایت بخشی	اور وہ جس نے	نکالا	چارہ	پھر اس نے بنا دیا اسے	کوڑا	
أَحْوَى ⑤	سَنُقْرِئُكَ	فَلَا	تَتَسَوَّى ⑥	إِلَّا	مَا	شَاءَ	اللَّهُ ط
سیاہ	عنقریب ہم پڑھادیں گے آپ کو	پھر نہیں	آپ بھولیں گے	مگر	جو	چاہے	اللہ
إِنَّهُ	يَعْلَمُ	الْجَهْرَ	وَمَا	يَخْفَى ⑦	وَنُبَيِّرُكَ	لِلْيُسْرَى ⑧	ط
بے شک وہ	وہ جانتا ہے	ظاہر کو	اور اس کو جو	پوشیدہ ہے	اور ہم آسانی کردیں گے آپ کے لیے	آسان (راستے) کی	
فَذَكِّرْ	إِنْ	نَفَعَتِ	الذِّكْرَى ⑨	سَيِّدَكَ	مَنْ	يَخْشَى ⑩	ط
پس نصیحت کیجیے	اگر	فائدہ دے	نصیحت کرنا	عنقریب نصیحت پڑے گا	وہ جو	ڈرتا ہوگا	
وَيَتَجَنَّبُهَا	الْأَشْقَى ⑪	الَّذِي	يَصْلَى	النَّارَ	الْكَبْرَى ⑫	ثُمَّ	
اور اجتناب کرے گا اس سے	سب سے زیادہ بد بخت	وہ جو	جلے گا	آگ میں	بہت بڑی	پھر	
لَا يَمُوتُ	فِيهَا	وَلَا	يَجِيئُ ⑬	قَدْ	أَفْلَحَ	مَنْ	تَزَكَّى ⑭
نہ وہ مرے گا	اس میں	اور نہ	وہ جیئے گا	یقیناً	فلاح پا گیا	وہ جو	پاک ہوا
وَذَكَّرَ	اسْمَ	رَبِّهِ	فَصَلَّى ⑮	بَلْ	تَوَثَّرُونَ		
اور اس نے ذکر کیا	نام	اپنے رب کا	پھر اس نے نماز پڑھی	بلکہ	تم ترجیح دیتے ہو		
الْحَيَاةَ	الدُّنْيَا ⑯	وَالْآخِرَةَ	خَيْرٌ	وَأَبْقَى ⑰	إِنَّ	هَذَا	
زندگی کو	دنیا کی	اور آخرت	بہتر ہے	اور زیادہ باقی رہنے والی ہے	یقیناً	یہ	

لَفِي الصُّحُفِ	الْأُولَى 18 ل	صُحُفٍ	إِبْرَاهِيمَ	وَمُوسَى 19 ع
البتہ صحیفوں میں ہے	پہلے	صحیفے	ابراہیم	اور موسیٰ کے

آيَاتُهَا: 26	سُورَةُ الْغَاشِيَةِ مَكِّيَّةٌ 68	رُكُوعُهَا: 1
---------------	------------------------------------	---------------

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

هَلْ	أَتَيْتُكَ	خَبْرٌ	ذُهَانِطٌ لِيْنِي وَالِي كِي	كُحْهُ چِرِي	اِس دِن	ذَلِيلٌ هُوِي كِي
کیا	آئی ہے آپ کے پاس	خبر	ڈھانپ لینے والی کی	کچھ چہرے	اس دن	ذلیل ہوں گے

عَامِلَةٌ	تَّاصِبَةٌ 3 ل	تَّصَلِي	نَارًا	حَامِيَةٌ 4 ل	تُسْفِي	مِنْ عَيْنٍ
عمل کرنے والے	تھک جانے والے	وہ چلیں گے	آگ میں	بھڑکتی ہوئی	وہ پلائے جائیں گے	ایک چشمے سے

أَيَّةٍ 5 ط	لَيْسَ لَهُمْ	طَعَامٌ	إِلَّا	مِنْ ضَرِيْعٍ 6 ل	لَا يُسِينُ	كُھولتے ہوئے پانی کے
کھولتے ہوئے پانی کے	نہیں ہے	ان کے لیے	کوئی کھانا	سوائے	کانٹوں کے	نہ وہ موٹا کرے گا

وَلَا يُغْنِي	مِنْ جُوعٍ 7 ط	وَجُوهٌ	يَوْمِيذٍ	نَاعِمَةٌ 8 ل	لِسَعِيْهَا	اور نہ
وہ کام آئے گا	بھوک سے	کچھ چہرے	اس دن	تر و تازہ ہوں گے	اپنی کوششوں پر	

رَاضِيَةٌ 9 ل	فِي جَنَّةٍ عَالِيَةٍ 10 ل	لَا تَسْمَعُ	فِيهَا	لَاغِيَةً 11 ط	فِيهَا	راضی ہوں گے
راضی ہوں گے	بلند جنت میں ہوں گے	نہیں وہ سنیں گے	اس میں	کوئی لغوبات	اس میں	

عَيْنٌ	جَارِيَةٌ 12 م	فِيهَا	سُرٌّ	مَرْفُوعَةٌ 13 ل	وَأَكْوَابٌ	ایک چشمہ ہوگا
ایک چشمہ ہوگا	جاری/رواں	اس میں	مسندیں ہوں گی	بلند	اور پیالے	

مَوْضُوعَةٌ 14 ل	وَنَبَارِقٌ	مُصْفُوفَةٌ 15 ل	وَزَرَائِبُ	مَبْتُوثَةٌ 16 ط	أَفَلَا	رکھے ہوئے
رکھے ہوئے	اور تیکے	صف در صف	اور نفیس قالین	پھیلائے ہوئے	کیا پھر نہیں	

يَنْظُرُونَ	إِلَى الْإِبِلِ	كَيْفَ	خُلِقَتْ 17 وَفَقَةٌ	وَإِلَى السَّمَاءِ	كَيْفَ	وہ دیکھتے
وہ دیکھتے	طرف اونٹوں کے	کیسے	وہ پیدا کیے گئے	اور طرف آسمان کے	کیسے	

رُفِعَتْ ⑱	وَالِى الْجِبَالِ كَيْفَ نُصِبَتْ ⑲	وَالِى الْأَرْضِ كَيْفَ	وقفہ	وہ بلند کیا گیا	اور طرف پہاڑوں کے	کیسے	وہ نصب کیے گئے	اور طرف زمین کے	کیسے			
سُطِحَتْ ⑳	فَذَكِّرْ ㉑	إِنَّمَا أَنْتَ	مَذَكِّرٌ ㉑	لَسْتَ عَلَيْهِمْ	وہ بچھائی گئی	پس نصیحت کیجیے	بے شک	آپ تو	نصیحت کرنے والے ہیں	نہیں آپ	ان پر	
بِصَيْطِرٍ ㉒	إِلَّا مَنْ	تَوَلَّى وَكَفَرَ ㉓	فِي عَذَابِهِ	اللَّهُ الْعَذَابُ	داروغہ/ ذمہ دار	مگر	وہ جس نے	منہ موڑا	اور اس نے انکار کیا	تو عذاب دے گا اسے	اللہ	عذاب
الْأَكْبَرِ ㉔	إِنَّ إِلَيْنَا	إِيَابَهُمْ ㉕	ثُمَّ إِنَّ	عَلَيْنَا حِسَابَهُمْ ㉖	سب سے بڑا	بے شک	ہماری ہی طرف	لوٹنا ہے ان کا	پھر	بے شک	ہمارے ہی ذمہ	حساب ہے ان کا
<p style="text-align: center;">آيَاتُهَا: 30</p> <p style="text-align: center;">89 سُورَةُ الْفَجْرِ مَكِّيَّةٌ 10</p> <p style="text-align: center;">رُكُوعُهَا: 1</p>												
<p style="text-align: center;">بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</p>												
وَالْفَجْرِ ①	وَلَيَالٍ عَشْرٍ ②	وَالشَّفْعِ ③	وَالْوَتْرِ ④	وَاللَّيْلِ إِذَا يَسِرُّ ⑤	قسم ہے فجر کی	اور دس راتوں کی	اور جفت	اور طاق کی	اور رات کی	جب	وہ چلتی ہے	
هَلْ فِي ذَلِكَ قَسَمٌ	لِيَذِي حَجْرٍ ⑥	أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ	رَبُّكَ	بِعَادٍ ⑦	اس میں	ایک بڑی قسم	عقل والوں کے لیے	کیا نہیں	آپ نے دیکھا	کیسے	کیا	
مِثْلَهَا فِي الْبِلَادِ ⑧	وَشَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ	بِالْوَادِ ⑨	رَبُّكَ	بِعَادٍ ⑩	شہروں میں	اور شمود کے	وہ جنہوں نے	تراشا	چٹانوں کو	وادئ میں	آپ کے رب نے	
وَفِرْعَوْنَ	ذِي الْأَوْتَادِ ⑪	الَّذِينَ طَغَوْا	فِي الْبِلَادِ ⑫	فَاكْتَرُوا	میتوں والے کے	وہ جنہوں نے	سرکشی کی	شہروں میں	پھر انہوں نے کثرت سے کیا			

فِيهَا	الْفَسَادُ ^ط 12	فَصَبَّ	عَلَيْهِمْ	رَبُّكَ	سَوَّطَ	عَذَابٍ ^ح 13	إِنَّ
ان میں	فساد	تو برسایا	ان پر	آپ کے رب نے	کوڑا	عذاب کا	بے شک
رَبُّكَ	لِبِالْبُرْصَادِ ^ط 14	فَأَمَّا	الْإِنْسَانُ	إِذَا مَا	ابْتَلَهُ	رَبُّهُ	
رب آپ کا	البتہ گھات میں ہے	تو رہا	انسان	جب	آزماتا ہے اسے	رب اس کا	
فَاكْرَمَهُ	وَنَعَّمَهُ ^ط	فَيَقُولُ	رَبِّي	أَكْرَمَنِي ^ط 15	وَأَمَّا	إِذَا مَا	
پھر وہ عزت دیتا ہے اسے	اور وہ نعمت دیتا ہے اسے	تو وہ کہتا ہے	میرے رب نے	عزت دی مجھے	اور لیکن	جب کبھی	
ابْتَلَهُ	فَقَدَّرَ	عَلَيْهِ	رِزْقَهُ ^ط	فَيَقُولُ	رَبِّي	أَهَانَنِي ^ج 16	
وہ آزماتا ہے اسے	پھر وہ تنگ کر دیتا ہے	اس پر	رزق اس کا	تو وہ کہتا ہے	میرے رب نے	ذلیل کر دیا مجھے	
كَلَّا بَلْ	لَا تُكْرِمُونَ	الْيَتِيمَ ^ط 17	وَلَا	تَحْضُونَ	عَلَى	طَعَامٍ	
ہرگز نہیں	بلکہ نہیں	تم عزت دیتے	یتیم کو	اور نہیں	تم آپس میں ترغیب دیتے	کھانا کھلانے پر	
الْمُسْكِينِ ^ط 18	وَتَأْكُلُونَ	الْثَّرَاتِ	أَكْلًا ^ط 19	لَبَّاسًا ^ط	وَتُحِبُّونَ	الْبَالَ	
مسکین کے	اور تم کھا جاتے ہو	میراث کو	کھا جانا	سمیٹ کر	اور تم محبت رکھتے ہو	مال سے	
حُبًّا	جَمًّا ^ط 20	كَلَّا	إِذَا	دُكَّتِ	الْأَرْضُ	دَكَّادَكًّا ^ط 21	وَجَاءَ
محبت	بہت زیادہ	ہرگز نہیں	جب	ریزہ ریزہ کر دی جائے گی	زمین	خوب ریزہ ریزہ کرنا	اور آئے گا
رَبُّكَ	وَالْمَلِكُ	صَفَّا صَفًّا ^ج 22	وَجَاءَ	يَوْمَئِذٍ	بِجَهَنَّمَ ^ط	يَوْمَئِذٍ	
رب آپ کا	اور فرشتے	صف در صف	اور لائی جائے گی	اس دن	جہنم	اس دن	
يَتَذَكَّرُ	الْإِنْسَانُ	وَأَنِّي	لَهُ	الذِّكْرَى ^ط 23	يَقُولُ	يَلَيْتَنِي	
نصیحت پڑے گا	انسان	اور کیونکر ہوگا	اس کے لیے	نصیحت پڑنا	وہ کہے گا	اے کاش کہ میں	
قَدَّمْتُ	لِحَيَاتِي ^ج 24	فِيَوْمَئِذٍ	لَا يُعَذِّبُ	عَذَابَهُ	أَحَدًا ^ط 25	وَلَا يُوثِقُ	
آگے بھیجا ہوتا میں نے	اپنی زندگی کے لیے	تو اس دن	نہ عذاب دے گا	عذاب اس جیسا	کوئی ایک	اور نہ باندھے گا	

وَتَأَقَّةً	أَحَدٌ 26 ط	يَأْتِيهَا النَّفْسُ	الْبَطِينَةُ 27 ط	أَرْجِعِي	إِلَى رَبِّكَ
باندھنا اس جیسا	کوئی ایک	اے نفس	جو مطمئن ہے	واپس چلو	طرف اپنے رب کے
رَاضِيَةً	مَرْضِيَّةً 28 ج	فَادْخُلِي	فِي عِبَادِي 29 ل	وَادْخُلِي	جَنَّتِي 30 ع
راضی ہو کر	پسندیدہ بن کر	پھر داخل ہو جاؤ	میرے بندوں میں	اور داخل ہو جاؤ	میری جنت میں
<p>آيَاتُهَا: 20</p> <p>سُورَةُ الْبَدْرِ مَكِّيَّةٌ 35</p> <p>رُكُوعُهَا: 1</p>					
<p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</p>					
لَا أُقْسِمُ	بِهَذَا الْبَدْرِ 1 ل	وَأَنْتَ	حِلٌّ	بِهَذَا الْبَدْرِ 2 ل	وَوَالِدِي
نہیں میں قسم کھاتا ہوں	اس شہر کی	اور آپ	مقیم ہیں	اس شہر میں	قسم ہے والد کی
وَمَا	وَلَكَدْ 3 ل	لَقَدْ	خَلَقْنَا	الْإِنْسَانَ	فِي كَبَدٍ 4 ط
اور جسے	اس نے جنم دیا	البتہ تحقیق	پیدا کیا ہم نے	انسان کو	مشقت میں
أَنْ لَّنْ	يَقْدِرَ	عَلَيْهِ	أَحَدٌ 5 م	يَقُولُ	أَهْلَكْتُ
کہ	ہرگز نہیں	قادر ہوگا	اس پر	کوئی ایک	وہ کہتا ہے
أَيَحْسَبُ	أَنْ لَّمْ	يَرَهُ	أَحَدٌ 7 ط	أَلَمْ	نَجْعَلْ
کیا وہ سمجھتا ہے	کہ	نہیں	دیکھا اسے	کسی ایک نے	کیا نہیں
وَلِسَانًا	وَشَفَتَيْنِ 9 ل	وَهَدَيْنَهُ	النَّجْدَيْنِ 10 ج	فَلَا	اِقْتَحَمَ
اور ایک زبان	اور دو ہونٹ	اور دکھائے ہم نے اسے	دونوں راستے	پس نہ	وہ داخل ہوا
وَمَا	أَدْرَاكَ	مَا	الْعَقَبَةُ 12 ط	فَكَ	رَقَبَةٍ 13 ل
اور کیا چیز	بتائے آپ کو	کہ کیا ہے	وہ گھائی	آزاد کرنا	ایک گردن کا
ذِي	مَسْغَبَةٍ 14 ل	يَتِيًّا	ذَامِقْرَبَةٍ 15 ل	أَوْ	مَسْكِينًا
بھوک والے	کسی یتیم	قربت والے کو	یا	کسی مسکین	خاک نشین کو

ثُمَّ	كَانَ	مِنَ الَّذِينَ	آمَنُوا	وَتَوَاصَوْا	بِالصَّبْرِ	وَتَوَاصَوْا
پھر	ہو وہ	ان میں سے جو	ایمان لائے	اور انہوں نے ایک دوسرے کو تلقین کی	صبر کرنے کی	اور ایک دوسرے کو تلقین کی

بِالْمَرْحَةِ	أُولَئِكَ	أَصْحَابُ الْبَيْتَةِ	وَالَّذِينَ	كَفَرُوا
رحم کرنے کی	یہی لوگ ہیں	دائیں ہاتھ والے	اور وہ جنہوں نے	کفر کیا

بِآيَاتِنَا	هُمْ	أَصْحَابُ الشَّعْبَةِ	عَلَيْهِمْ	نَارٌ	مُؤَصَّدَةٌ
ہماری آیات کے ساتھ	وہ ہیں	بائیں ہاتھ والے	ان پر	آگ ہوگی	بند کی ہوئی

آيَاتُهَا: 15	سُورَةُ الشَّسِيسِ مَكِّيَّةٌ 26	رُكُوعُهَا: 1
---------------	----------------------------------	---------------

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

وَالشَّسِيسِ	وَضُحِّهَا	وَالْقَمَرِ	إِذَا	تَلَّهَا	وَالنَّهَارِ	إِذَا
قسم ہے سورج کی	اور اس کی دھوپ کی	اور چاند کی	جب	وہ اس کے پیچھے آئے	اور دن کی	جب

جَلَّهَا	وَاللَّيْلِ	إِذَا	يَغْشَاهَا	وَالسَّيِّءِ	وَمَا	بَنَاهَا
وہ ظاہر کرے اسے	اور رات کی	جب	وہ ڈھانپ لے اسے	اور آسمان کی	اور اس کی	جس نے بنایا اسے

وَالْأَرْضِ	وَمَا	طَحَّهَا	وَنَفْسِ	وَمَا	سَوَّاهَا
اور زمین کی	اور اس کی	جس نے بچھا یا اسے	اور نفس کی	اور اس کی	جس نے درست کیا اسے

فَالهَبِهَا	فُجُورَهَا	وَتَقْوَاهَا	قَدْ	أَفْلَحَ	مَنْ	زَكَّاهَا
پس اس نے الہام کی اسے	بدی اس کی	اور تقویٰ اس کا	یقیناً	وہ فلاح پا گیا	جس نے	پاک کیا اسے

وَقَدْ	خَابَ	مَنْ	دَسَّهَا	كَذَّبَتْ	ثَمُودُ	بَطْغُولَهَا	إِذْ
اور یقیناً	وہ ناکام ہوا	جس نے	دبا دیا اسے	جھٹلایا	ثمود نے	بوجہ اپنی سرکشی کے	جب

انْبَعَثَ	أَشْفَاهَا	فَقَالَ	لَهُمْ	رَسُولُ اللَّهِ	نَاقَةٌ	اللَّهِ
اٹھا	سب سے بڑا بد بخت اس کا	تو کہا	انہیں	اللہ کے رسول نے	اونٹنی ہے	اللہ کی

وَسُقِيهَا ^ط ⑬	فَكَذَّبُوهُ	فَعَقَرُوهَا ^ح	فَدَمَدَمَ	عَلَيْهِمْ	رَبُّهُمْ
اور پانی پلانا ہے اسے	تو انہوں نے جھٹلایا اسے	پھر کوچیوں کاٹ دیں اس کی	تو ہلاکت ڈالی	ان پر	ان کے رب نے
بِذُنُبِهِمْ	فَسَوَّيْهَا ^ح ⑭	وَلَا	يَخَافُ	عُقْبَاهَا ^ع ⑮	
بوجہ ان کے گناہوں کے	پھر اس نے برابر کر دیا اسے	اور نہیں	وہ ڈرتا	اس کے انجام سے	

15
16

أَيَاتُهَا: 21	92 سُورَةُ الْبَيْلِ مَكِّيَّةٌ 9	رُكُوعُهَا: 1
----------------	-----------------------------------	---------------

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

وَالْبَيْلِ	إِذَا	يَغْشَى ^ح ①	وَالنَّهَارِ	إِذَا	تَجَلَّى ^ح ②	وَمَا	خَلَقَ
قسم ہے رات کی	جب	وہ چھاجائے	اور دن کی	جب	وہ روشن ہو	اور اس کی	جس نے پیدا کیا

الدَّكَّرِ	وَالْأُنثَى ^ح ③	إِنَّ	سَعَيْكُمْ	لَشَيْ ^ط ④	فَأَمَّا	مَنْ	أَعْطَى
نر	اور مادہ کو	بے شک	کوشش تمہاری	البتہ مختلف طرح کی ہے	تو راہوہ	جس نے	دیا

وَأَتَّقَى ^ح ⑤	وَصَدَّقَ	بِالْحُسْنَى ^ح ⑥	فَسَنِّيَسِرُّهُ	لِلْيَسْرَى ^ط ⑦	وَأَمَّا		
اور اس نے تقویٰ کیا	اور تصدیق کی	بھلائی کی	پس عنقریب ہم آسانی دیں گے اسے	آسان (راستے) کی	اور راہوہ		

مَنْ	بَخِلَ	وَاسْتَعْنَى ^ح ⑧	وَكَذَّبَ	بِالْحُسْنَى ^ح ⑨	فَسَنِّيَسِرُّهُ		
جس نے	بخل کیا	اور اس نے بے پروائی برتی	اور اس نے جھٹلایا	نیکی کو	پس عنقریب ہم آسانی دیں گے اسے		

لِلْعُسْرَى ^ط ⑩	وَمَا	يُغْنِي	عَنْهُ	مَالُهُ	إِذَا	تَرَدَّى ^ط ⑪	إِنَّ
مشکل (راستے) کی	اور نہیں	کام آئے گا	اسے	مال اس کا	جب	وہ (جہنم میں) گرے گا	بے شک

عَلَيْنَا	لِلْهُدَى ^ح ⑫	وَإِنَّ	لَنَا	لِلْآخِرَةِ	وَالْأُولَى ^ح ⑬		
ہمارے ہی ذمہ ہے	یقیناً ہدایت دینا	اور بے شک	ہمارے ہی اختیار میں ہے	یقیناً آخرت	اور پہلی (دنیا)		

فَأَنْذَرْتُكُمْ	نَارًا	تَلْطَفِي ^ج ⑭	لَا يَصْلُهَا	إِلَّا	الْأَشْقَى ^ح ⑮	الَّذِي	
تو ڈر دیا میں نے تمہیں	ایک آگ سے	جو بھڑکتی ہے	نہ جلے گا اس میں	مگر	نہایت بد بخت	وہ جس نے	

كَذَّبَ	وَتَوَلَّى ^ط 16	وَسَيَجِدُهَا	الْآتَقَى ^ل 17	الَّذِي يُؤْتِي	مَالَهُ
جھٹلایا	اور اس نے منہ موڑ لیا	اور عنقریب بچا لیا جائے گا اس سے	نہایت پرہیزگار	وہ جو دیتا ہے	مال اپنا

يَتَزَكَّى ^ج 18	وَمَا	لِأَحَدٍ	عِنْدَهُ	مِنْ نِعْمَةٍ	تُجْزَى ^ل 19	إِلَّا
کہ وہ پاک ہو	اور نہیں	کسی ایک کے لیے	اس کے پاس	کوئی نعمت (احسان)	(جس کا) بدلہ دیا جائے گا	سوائے

ابْتِغَاءً	وَجْهٍ	رَبِّهِ	الْأَعْلَى ^ج 20	وَلَسَوْفَ	يَرْضَى ^ع 21
چاہنے کے لیے	چہرہ	اپنے رب کا	جو سب سے بلند ہے	اور یقیناً عنقریب	وہ راضی ہو جائے گا

آيَاتُهَا: 11	93 سُورَةُ الضُّحَى مَكِّيَّةٌ 11	رُكُوعُهَا: 1
---------------	-----------------------------------	---------------

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ					
---------------------------------------	--	--	--	--	--

وَالضُّحَى ^ل 1	وَاللَّيْلِ	إِذَا	سَجَى ^ل 2	مَا	وَدَّعَاكَ	رَبَّكَ
قسم ہے چاشت کی	اور رات کی	جب	وہ چھ جائے	نہیں	چھوڑا آپ کو	آپ کے رب نے

وَمَا	قَلِي ^ط 3	وَالْآخِرَةُ	خَيْرٌ	لَّكَ	مِنَ الْأُولَى ^ط 4	وَلَسَوْفَ
اور نہ	وہ ناراض ہوا	اور یقیناً آخرت	بہتر ہے	آپ کے لیے	پہلی (دنیا) سے	اور یقیناً عنقریب

يُعْطِيكَ	رَبُّكَ	فَتَرْضَى ^ط 5	الْمَ	يَجِدَكَ	يَتِيمًا
عطا کرے گا آپ کو	رب آپ کا	تو آپ راضی ہو جائیں گے	کیا نہیں	اس نے پایا آپ کو	یتیم

فَأُولَى ^ص 6	وَوَجَدَكَ	ضَالًّا	فَهَدَى ^ص 7	وَوَجَدَكَ	عَائِلًا
پھر اس نے ٹھکانہ فراہم کیا	اور اس نے پایا آپ کو	راہ بھولا	تو اس نے راہ نمائی کی	اور اس نے پایا آپ کو	تنگ دست

فَاعْنِي ^ط 8	فَأَمَّا	الْيَتِيمَ	فَلَا	تَقْهَرُ ^ط 9	وَأَمَّا	السَّائِلَ
تو اس نے غنی کر دیا	تو رہا	یتیم	پس نہ	آپ سختی کیجیے (اس پر)	اور رہا	سوالی

فَلَا	تَنْهَرُ ^ط 10	وَأَمَّا	بِنِعْمَةِ رَبِّكَ	فَحَدِّثْ ^ع 11
پس نہ	آپ جھڑکیے (اسے)	اور لیکن	اپنے رب کی نعمت کو	پس بیان کیجیے

رُكُوعُهَا: 1		94 سُورَةُ اَلَمْ نَشْرَحْ مَكِّيَّةٌ 12				آيَاتُهَا: 8	
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ							
اَلَمْ	نَشْرَحْ	لَكَ	صَدْرَكَ ①	وَوَضَعْنَا	عَنْكَ	وَزُرَكَ ②	اَلَمْ
کیا نہیں	ہم نے کھول دیا	آپ کے لیے	سینہ آپ کا	اور اتار دیا ہم نے	آپ سے	بوجھ آپ کا	اَلَمْ
اَلَّذِي	اَنْقَضَ	ظَهْرَكَ ③	وَرَفَعْنَا	لَكَ	ذِكْرَكَ ④	فَاِنَّ	اَلَّذِي
وہ جس نے	توڑ دی تھی	کمر آپ کی	اور بلند کیا ہم نے	آپ کے لیے	ذکر آپ کا	پس یقیناً	اَلَّذِي
مَعَ	العُسْرِ	يُسْرًا ⑤	اِنَّ	مَعَ	العُسْرِ	يُسْرًا ⑥	فَاِذَا
ساتھ	تنگی کے	آسانی ہے	یقیناً	ساتھ	تنگی کے	آسانی ہے	پس جب
فَرَعَتْ	فَاَنْصَبَ ⑦	وَ اِلَى رَبِّكَ	فَاَرْغَبَ ⑧				
فارغ ہو جائیں آپ	تو محنت کیجیے	اور طرف اپنے رب کے	پس رغبت کیجیے				
رُكُوعُهَا: 1		95 سُورَةُ التَّيْنِ مَكِّيَّةٌ 28				آيَاتُهَا: 8	
بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ							
وَالتَّيْنِ	وَالزَّيْتُونِ ①	وَ طُورِ سَيْنِينَ ②	وَهَذَا	اَلْبَلَدِ			
قسم ہے انجیر کی	اور زیتون کی	اور طور سینا کی	اور اس	شہر			
اَلْاَمِيْنِ ③	لَقَدْ	خَلَقْنَا	اَلْاِنْسَانَ	فِيْ اَحْسَنِ تَقْوِيْمٍ ④	ثُمَّ		
امن والے کی	البتہ تحقیق	پیدا کیا ہم نے	انسان کو	بہترین ساخت میں	پھر		
رَدَدْنَاهُ	اَسْفَلَ	سُفْلِيْنَ ⑤	اِلَّا	اَلَّذِيْنَ	اٰمَنُوْا	وَعَمِلُوْا	
لوٹا دیا ہم نے اسے	سب سے زیادہ نچلا	نچلوں سے	سوائے	ان کے جو	ایمان لائے	اور انہوں نے عمل کیے	
الصَّلٰحٰتِ	فَلَهُمْ	اَجْرٌ	غَيْرٌ	مَمْنُوْنٍ ⑥	فَمَا	يَكْذِبُكَ	
نیک	تو ان کے لیے	اجر ہے	نہ	ختم ہونے والا	تو کیا (آبادہ کرتا ہے)	جھٹلانے پر تجھے	

بَعْدُ	بِالدِّينِ ٧ ط	أَلَيْسَ	اللَّهُ	بِأَحْكَمِ	الْحَكِيمِينَ ٨ ع
بعد اس کے	بدلے (کے دن) کو	کیا نہیں ہے	اللہ	بڑا حاکم	سب حاکموں سے

آيَاتُهَا: 19	96 سُورَةُ الْعَلَقِ مَكِّيَّةٌ 1	رُكُوعُهَا: 1
---------------	-----------------------------------	---------------

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ الَّذِي خَلَقَ ١ ج	الَّذِي خَلَقَ ١ ج	الْإِنْسَانَ	مِنْ عَلَقٍ ٢ ج
پڑھیے	اپنے رب کے	وہ جس نے	پیدا کیا
نام سے	پیدا کیا	اس نے پیدا کیا	انسان کو
جھے ہوئے خون سے			

إِقْرَأْ وَرَبُّكَ الْأَكْرَمُ ٣ ل	الَّذِي عَلَّمَ بِالْقَلَمِ ٤ ل	عَلَّمَ ٤ ل	الْإِنْسَانَ
پڑھیے	اور رب آپ کا	سب سے زیادہ کرم والا ہے	وہ جس نے
اسکھایا	اسکھایا	ساتھ قلم کے	اس نے سکھایا
انسان کو			

مَا لَمْ يَعْلَمْ ٥ ط	كَلَّا ٥ ط	إِنَّ الْإِنْسَانَ لِرَبِّهِ لَكَنَافٍ ٦ ل	أَنْ ٦ ل
جو	نہیں	وہ جانتا تھا	ہرگز نہیں
بے نیاز	بے شک	طرف آپ کے رب کے	پلٹتا ہے
کیا دیکھا آپ نے	اس شخص کو جو		

رَأَاهُ ٧ ط	أَسْتَعْنَى ٧ ط	إِنَّ إِلَىٰ رَبِّكَ الرُّجْعَىٰ ٨ ط	أَرَعَيْتَ ٨ ط	الَّذِي
وہ دیکھتا ہے خود کو	بے نیاز	بے شک	طرف آپ کے رب کے	پلٹتا ہے
کیا دیکھا آپ نے	اس شخص کو جو			

يَنْهَىٰ ٩ ل	عَبْدًا ٩ ل	إِذَا صَلَّىٰ ١٠ ط	أَرَعَيْتَ ١٠ ط	إِنْ ١٠ ط	كَانَ ١٠ ط
روکتا ہے	ایک بندے کو	جب	وہ نماز پڑھتا ہے	کیا دیکھا آپ نے	اگر
ہو وہ					

عَلَىٰ الْهُدَىٰ ١١ ل	أَوْ ١١ ل	أَمَرَ ١١ ل	بِالتَّقْوَىٰ ١٢ ط	أَرَعَيْتَ ١٢ ط	إِنْ ١٢ ط	كَذَّبَ ١٢ ط
ہدایت پر	یا	وہ حکم دیتا ہو	تقویٰ کا	کیا دیکھا آپ نے	اگر	اس نے جھٹلایا

وَتَوَلَّىٰ ١٣ ط	أَلَمْ ١٣ ط	يَعْلَمْ ١٣ ط	بِأَنَّ ١٣ ط	اللَّهُ ١٣ ط	يَرَىٰ ١٤ ط	كَلَّا ١٤ ط	لَيْنٌ ١٤ ط
اور اس نے منہ موڑا	کیا نہیں	وہ جانتا	کہ بے شک	اللہ	دیکھ رہا ہے	ہرگز نہیں	البتہ اگر

لَمْ ١٥ ط	يَنْتَه ١٥ ط	لَنْسَفًا ١٥ ط	بِالنَّاصِيَةِ ١٥ ل	نَاصِيَةٍ ١٥ ل	كَاذِبَةٍ ١٥ ط
نہ	وہ باز آیا	تو ہم ضرور گھسیٹیں گے (اسے)	پیشانی کے (بالوں سے)	پیشانی	جو جھوٹی ہے

خَاطِئَةٌ ⑩ ج	فَلْيَدْعُ	نَادِيَهُ ⑩ لا	سَنَدْعُ	الرَّبَّانِيَّةَ ⑩ لا
خطا کار ہے	پس چاہیے کہ وہ پکارے	اپنی مجلس کو	عنقریب ہم بلا لیں گے	دوزخ کے فرشتوں کو
كَلَّا ط	لَا تُطْعَهُ	وَأَسْجُدُ	وَأَقْتَرِبُ ⑩ السَّجْدِ	
ہرگز نہیں	نہ آپ اطاعت کیجئے اس کی	اور سجدہ کیجئے	اور قرب حاصل کیجئے	
آيَاتُهَا: 5	سُورَةُ الْقَدْرِ مَكِّيَّةٌ 25			رُكُوعُهَا: 1
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ				
إِنَّا	أَنْزَلْنَاهُ	فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ ① ط	وَمَا	أَدْرَاكَ مَا
بے شک ہم	نازل کیا ہم نے اسے	لیلیۃ القدر میں	اور کیا چیز	بتائے آپ کو کیا ہے
لَيْلَةُ الْقَدْرِ ② ط	لَيْلَةُ الْقَدْرِ ③ ط	خَيْرٌ	مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ ③ ط	تَنْزِيلُ
لیلیۃ القدر	لیلیۃ القدر	بہتر ہے	ہزار مہینوں سے	اترتے ہیں
الْمَلَائِكَةُ	وَالرُّوحُ	فِيهَا	بِإِذْنِ رَبِّهِمْ ④ ط	مِنْ كُلِّ أَمْرِ ④ ط
فرشتے	اور روح (جبرائیل)	اس میں	اپنے رب کے اذن سے	ہر کام کے لیے
سَلَامٌ ④ ط	هِيَ	حَتَّىٰ	مَطْلَعِ	الْفَجْرِ ⑤ ط
سلامتی ہے	وہ	یہاں تک کہ	طلوع ہو جائے	فجر
آيَاتُهَا: 8	سُورَةُ الْبَيِّنَةِ مَدَنِيَّةٌ 100			رُكُوعُهَا: 1
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ				
لَمْ	يَكُنْ	الَّذِينَ	كَفَرُوا	مِنْ أَهْلِ الْكُتُبِ
نہیں	تھے	وہ جنہوں نے	کفر کیا	اہل کتاب میں سے
مُنْفِكِينَ	حَتَّىٰ	تَأْتِيَهُمْ	الْبَيِّنَةُ ① لا	رَسُولٌ
باز آنے والے	یہاں تک کہ	آجائے ان کے پاس	واضح دلیل	ایک رسول
مِّنَ اللَّهِ				الَّتِي كَانَتْ مِنْهُ
اللہ کی طرف سے				جس کی طرف سے

يَتْلُوا	صُحُفًا	مُطَهَّرَةً ②	فِيهَا	كُتُبٌ	قِيَسَةً ③	وَمَا	تَفَرَّقَ
جو پڑھتا ہے	صحیفے	پاکیزہ	اس میں	تحریریں ہیں	درست	اور نہیں	تفرقہ کیا
الَّذِينَ	أُوتُوا	الْكِتَابَ	إِلَّا	مِنْ	بَعْدِ	مَا	جَاءَتْهُمْ
ان لوگوں نے جو	دیئے گئے	کتاب	مگر	بعد اس کے	جو	آئی ان کے پاس	کھلی دلیل ④
وَمَا	أَمْرًا	إِلَّا	لِيَعْبُدُوا	اللَّهَ	مُخْلِصِينَ	لَهُ	الدِّينَ ⑤
اور نہیں	وہ حکم دیئے گئے تھے	مگر	یہ کہ وہ عبادت کریں	اللہ کی	خالص کرنے والے	اس کے لیے	دین کو
حُنَفَاءَ	وَيُقِيمُوا	الصَّلَاةَ	وَيُؤْتُوا	الزَّكَاةَ	وَذَلِكَ	دِينٌ	
یکسو ہو کر	اور وہ قائم کریں	نماز	اور وہ ادا کریں	زکوٰۃ	اور یہ ہے	دین	
الْقِيَسَةَ ⑤	إِنَّ	الَّذِينَ	كَفَرُوا	مِنْ	أَهْلِ	الْكِتَابِ	وَالْمُشْرِكِينَ
درست	بے شک	وہ جنہوں نے	کفر کیا	اہل کتاب میں سے	اور مشرکین		
فِي	نَارِ	جَهَنَّمَ	خُلِدِينَ	فِيهَا ⑥	أُولَئِكَ	هُمْ	شَرُّ
آگ میں ہوں گے	جہنم کی	ہمیشہ رہنے والے	اس میں	یہی لوگ ہیں	وہ	بدترین	مخلوق ⑥
إِنَّ	الَّذِينَ	آمَنُوا	وَعَمِلُوا	الصَّالِحَاتِ ⑦	أُولَئِكَ	هُمْ	خَيْرٌ
بے شک	وہ لوگ جو	ایمان لائے	اور انہوں نے عمل کیے	نیک	یہی لوگ ہیں	وہ	بہترین
الْبَرِيَّةِ ⑦	جَزَاءُ	هُمْ	عِنْدَ	رَبِّهِمْ	جَنَّتْ	عَدْنٍ	تَجْرِي
مخلوق	بدلہ ان کا	پاس ہے	ان کے رب کے	باغات	بیشگی کے	بہتی ہیں	
مِنْ	تَحْتِهَا	الْأَنْهَارُ	خُلِدِينَ	فِيهَا	أَبَدًا ⑧	رَضِيَ	اللَّهُ
ان کے نیچے سے	نہریں	ہمیشہ رہنے والے ہیں	ان میں	ہمیشہ ہمیشہ	راضی ہو گیا	اللہ	
عَنْهُمْ	وَرَضُوا	عَنْهُ ⑧	ذَلِكَ	لِئِنْ	خَشِيَ	رَبَّهُ ⑧	
ان سے	اور وہ راضی ہو گئے	اس سے	یہ	اس کے لیے جو	ڈر گیا	اپنے رب سے	

رُكُوعُهَا: 1		99 سُورَةُ الرِّزَالِ مَدَنِيَّةٌ 93				آيَاتُهَا: 8	
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ							
إِذَا زُلْزِلَتِ	الْأَرْضُ	زُلْزَالَهَا ①	وَ أَخْرَجَتِ	الْأَرْضُ	أَثْقَالَهَا ②	لَا	
جب	ہلا دی جائے گی	زمین	اور نکالے گی	زمین	بوجھ اپنے		
وَقَالَ	الْإِنْسَانُ	مَا	لَهَا ③	يَوْمَئِذٍ	تُحَدِّثُ	أَخْبَارَهَا ④	لَا
اور کہے گا	انسان	کیا ہے	اسے	اس دن	وہ بیان کرے گی	خبریں اپنی	
بِأَنَّ	رَبَّكَ	أَوْحَى	لَهَا ⑤	يَوْمَئِذٍ	بِصَدْرِ	النَّاسِ	أَشْتَاتًا ⑥
کیونکہ	آپ کے رب نے	وحی کی	اسے	اس دن	لوٹیں گے	لوگ	الگ الگ ہو کر
لِيُرَوْا	أَعْمَالَهُمْ ⑥	فَمَنْ	يَعْمَلْ	مِثْقَالَ	ذَرَّةٍ	خَيْرًا	لَا
تاکہ وہ دکھائے جائیں	اعمال اپنے	تو جو کوئی	عمل کرے گا	وزن برابر	ذرے کے	بھلائی کے	
يَرَهُ ⑦	وَمَنْ	يَعْمَلْ	مِثْقَالَ	ذَرَّةٍ	شَرًّا	يَرَهُ ⑧	لَا
وہ دیکھ لے گا اسے	اور جو کوئی	عمل کرے گا	وزن برابر	ذرے کے	برائی کے	وہ دیکھ لے گا اسے	
رُكُوعُهَا: 1		100 سُورَةُ الْعِدِيَّتِ مَكِّيَّةٌ 14				آيَاتُهَا: 11	
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ							
وَالْعِدِيَّتِ	ضَبْحًا ①	فَالْمُورِيَّتِ	قَدْحًا ②	فَالْمُغِيرَتِ	بِهِ	فَالْمُغِيرَتِ	بِهِ
قسم ہے دوڑنے والوں کی	ہانپتے ہوئے	پھر چنگاری نکالنے والوں کی	سُم مار کر	پھر حملہ کرنے والوں کی		پھر حملہ کرنے والوں کی	
صُبْحًا ③	فَاثْرَنَ	بِهِ	نَقْعًا ④	فَوَسَطْنَ	بِهِ	فَوَسَطْنَ	بِهِ
صبح سویرے	پھر وہ اڑاتے ہیں	ساتھ اس کے	غبار کو	پھر وہ درمیان میں گھس جاتے ہیں	ساتھ اس کے	ساتھ اس کے	
جُمَعًا ⑤	إِنَّ	الْإِنْسَانَ	لِرَبِّهِ	لَكَنُودٌ ⑥	وَإِنَّهُ	عَلَى ذَلِكَ	لَا
جماعت میں	یقیناً	انسان	اپنے رب کا	یقیناً بڑا ناشکر ہے	اور بے شک وہ	اوپر اس کے	

لَشَهِيدٌ ⑦ ج	وَإِنَّهُ	لِحُبِّ	الْخَيْرِ	لَشَدِيدٌ ⑧ ط	أَفَلَا
البتہ (خود) گواہ ہے	اور بے شک وہ	محبت میں	مال کی	یقیناً شدید ہے	کیا جھلا نہیں
يَعْلَمُ	إِذَا	بُعْثِرَ	مَا	فِي الْقُبُورِ ⑨ لا	وَحِصَلٌ
وہ جانتا	جب	نکال لیا جائے گا	جو	قبروں میں ہے	اور حاصل کر لیا جائے گا

فِي الصُّدُورِ ⑩ لا	إِنَّ	رَبَّهُمْ	بِهِمْ	يَوْمَئِذٍ	لَّخَيْرٌ ⑪ ع
سینوں میں ہے	بے شک	رب ان کا	ان کے بارے میں	اس دن	یقیناً بہت باخبر ہوگا

ع 11
25

آيَاتُهَا: 11	سُورَةُ الْقَارِعَةِ مَكِّيَّةٌ 30	رُكُوعُهَا: 1
---------------	------------------------------------	---------------

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْقَارِعَةُ ① لا	مَا	الْقَارِعَةُ ② ج	وَمَا	أَدْرَاكَ	مَا	الْقَارِعَةُ ③ ط
کھٹکھٹانے والی	کیا ہے وہ	کھٹکھٹانے والی	اور کیا چیز	بتائے آپ کو	کہ کیا ہے وہ	کھٹکھٹانے والی

يَوْمٌ	يَكُونُ	النَّاسُ	كَالْفَرَاشِ	الْبَثْوِثِ ④ لا	وَتَكُونُ	الْجِبَالُ
جس دن	ہو جائیں گے	لوگ	پر دانوں کی طرح	بکھرے ہوئے	اور ہو جائیں گے	پہاڑ

كَالْعِهْنِ	الْبَنَفُوشِ ⑤ ط	فَأَمَّا	مَنْ	تَقَلَّتْ	مَوَازِينُهُ ⑥ لا	فَهُوَ
رنگین روئی کی طرح	دھنکی ہوئی	تو رہا	وہ جو	بھاری ہوئے	پلڑے اس کے	تو وہ

فِي عَيْشَةٍ	رَاضِيَةٍ ⑦ ط	وَأَمَّا	مَنْ	خَفَّتْ	مَوَازِينُهُ ⑧ لا	فَأُمُّهُ
زندگی میں ہوگا	پسندیدہ	اور رہا	وہ جو	ہلکے ہوئے	پلڑے اس کے	تو اس کی ماں (ٹھکانہ)

هَآوِيَةٌ ⑨ ط	وَمَا	أَدْرَاكَ	مَا هِيَ ⑩ ط	نَارٌ	حَامِيَةٌ ⑪ ع
ہاویہ (جہنم) ہوگی	اور کیا چیز	بتائے آپ کو	کیا ہے وہ	آگ ہے	بھڑکتی ہوئی

ع 11
26

آيَاتُهَا: 8	سُورَةُ التَّكَاثُرِ مَكِّيَّةٌ 16	رُكُوعُهَا: 1
--------------	------------------------------------	---------------

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَلْهَكُمْ	التَّكَاثُرُ ①	حَتَّى	زُرْتُمْ	الْمَقَابِرَ ②	كَلَّا	سَوْفَ
غافل کر دیا تمہیں	کثرت کی طلب نے	یہاں تک کہ	جا پہنچے تم	قبروں کو	ہرگز نہیں	عنقریب
تَعْلَمُونَ ③	ثُمَّ	كَلَّا	سَوْفَ	تَعْلَمُونَ ④	كَلَّا	لَوْ تَعْلَمُونَ
تم جان لو گے	پھر	ہرگز نہیں	عنقریب	تم جان لو گے	ہرگز نہیں	تم جان لیتے
عَلِمَ	الْيَقِينِ ⑤	لَتَرُونَ	الْجَحِيمَ ⑥	ثُمَّ	لَتَرُونَهَا	عَيْنَ
جانا	یقین کا	البتہ تم ضرور دیکھو گے	جہنم کو	پھر	البتہ تم ضرور دیکھو گے اسے	آنکھ سے
الْيَقِينِ ⑦	ثُمَّ	لَتَسْعَلَنَّ	يَوْمَئِذٍ	عَنِ النَّعِيمِ ⑧		
یقین کی	پھر	البتہ تم ضرور پوچھے جاؤ گے	اس دن	نعمتوں کے بارے میں		
<p>آيَاتُهَا: 3 سُورَةُ الْعَصْرِ مَكِّيَّةٌ 13 رُكُوعُهَا: 1</p>						
<p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</p>						
وَالْعَصْرِ ①	إِنَّ	الْإِنْسَانَ	لَفِي خُسْرٍ ②	إِلَّا	الَّذِينَ	آمَنُوا
قسم ہے زمانے کی	بے شک	انسان	یقیناً خسارے میں ہے	سوائے	ان لوگوں کے جو	ایمان لائے
وَعِبَلُوا	الصَّالِحَاتِ	وَتَوَاصَوْا	بِالْحَقِّ ④	وَتَوَاصَوْا	بِالصَّبْرِ ③	
اور انہوں نے عمل کیے	نیک	اور ایک دوسرے کو تلقین کی	حق کی	اور ایک دوسرے کو تلقین کی	صبر کی	
<p>آيَاتُهَا: 9 سُورَةُ الْهُمَزَةِ مَكِّيَّةٌ 32 رُكُوعُهَا: 1</p>						
<p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</p>						
وَيْلٌ	لِكُلِّ	هُمَزَةٍ	لَمَزَةٍ ①	الَّذِي	جَمَعَ	مَالًا
ہلاکت ہے	واسطے ہر	عیب لگانے والے	غیبت کرنے والے کے	وہ جس نے	جمع کیا	مال
وَعَدَدَهُ ②	يَحْسَبُ	أَنَّ	مَالَهُ	أَخْلَدَهُ ③	كَلَّا	
اور اس نے گن گن کر رکھا اسے	وہ سمجھتا ہے	کہ بے شک	مال اس کا	ہیشگی بخشنے گا اسے	ہرگز نہیں	

لَيْبُنَدَانَ	فِي الْحُطَبَةِ ④	وَمَا	أَدْرَاكَ	مَا	الْحُطَبَةُ ⑤
البتہ وہ ضرور ڈالا جائے گا	حطہ میں	اور کیا چیز	بتائے آپ کو	کیا ہے	حطہ
نَارُ	اللَّهِ	الْمُوقَدَةُ ⑥	الَّتِي	تَطَّلِعُ	عَلَى الْإِفْدَةِ ⑦
آگ ہے	اللہ کی	بھڑکائی ہوئی	وہ جو	چڑھ آتی ہے	دلوں پر
إِنَّهَا	عَلَيْهِمْ	مُؤَصَّدَةٌ ⑧	فِي عَمَدٍ	مُسَدَّدَةٌ ⑨	
بے شک وہ	ان پر	بند کی ہوئی ہے	ستونوں میں	لبے لبے	
<p>آيَاتُهَا: 5</p> <p>سُورَةُ الْفِيلِ مَكِّيَّةٌ 19</p> <p>رُكُوعُهَا: 1</p>					
<p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</p>					
أَلَمْ	تَرَ	كَيْفَ	فَعَلَ	رَبُّكَ	بِأَصْحَابِ الْفِيلِ ①
کیا نہیں	آپ نے دیکھا	کس طرح	کیا	آپ کے رب نے	ہاتھی والوں کے ساتھ
أَلَمْ	يَجْعَلْ	كَيْدَهُمْ	فِي تَضَلُّيلٍ ②	وَأَرْسَلَ	عَلَيْهِمْ
کیا نہیں	اس نے کر دیا تھا	ان کی چال کو	بے کار/اکارت	اور اس نے بھیجے	ان پر
طَيْرًا	أَبَابِيلَ ③	تَرْمِيهِمْ	بِحِجَارَةٍ	مِّنْ سِجِّيلٍ ④	
پرندے	جھنڈ کے جھنڈ	جو پھینکتے تھے ان پر	پتھر	کنکر کی (قسم) کے	
فَجَعَلَهُمْ		كَعَصْفٍ		مَّا كُوِّلٍ ⑤	
تو اس نے کر دیا انہیں		بھوسے کی طرح		کھائے ہوئے	
<p>آيَاتُهَا: 4</p> <p>سُورَةُ قُرَيْشٍ مَكِّيَّةٌ 29</p> <p>رُكُوعُهَا: 1</p>					
<p>بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ</p>					
لِإِيلِفٍ	قُرَيْشٍ ①	الْفِهِمِ	رِحْلَةَ	الشِّتَاءِ	وَالصَّيْفِ ②
مانوس کرنے کے لیے	قریش کو	مانوس کرنا انہیں	سفر سے	سردی کے	اور گرمی کے

فَلْيَعْبُدُوا رَبَّ	هَذَا	الْبَيْتِ ③	الَّذِي	أَطْعَمَهُمْ
پس چاہیے کہ وہ عبادت کریں	اس	گھر کے	جس نے	کھلایا انہیں
مَنْ جُوعًا ④	وَأَمْنَهُمْ	مَنْ خَوْفٍ ④		
بھوک میں	اور اس نے امن دیا انہیں	خوف سے		

1
ع
4
31

آيَاتُهَا: 7	سُورَةُ الْمَاعُونِ مَكِّيَّةٌ 17	رُكُوعُهَا: 1
--------------	-----------------------------------	---------------

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

أَرَعَيْتَ	الَّذِي	يُكَذِّبُ	بِالَّذِينَ ①	فَذَلِكَ	الَّذِي
کیا دیکھا آپ نے	اس شخص کو جو	جھٹلاتا ہے	بدلے (کے دن) کو	پس یہ	وہ ہے جو

يَدْعُ	الْيَتِيمَ ②	وَلَا	يَحْضُ	عَلَى طَعَامِهِ	الْمِسْكِينَ ③
دھکے دیتا ہے	یتیم کو	اور نہیں	وہ رغبت دلاتا	کھانا کھلانے پر	مسکین کے

فَوَيْلٌ	لِّلْمَصَلِّينَ ④	الَّذِينَ	هُمْ	عَنْ صَلَاتِهِمْ	سَاهُونَ ⑤
پس ہلاکت ہے	ان نمازیوں کے لیے	وہ جو	وہ	اپنی نمازوں سے	غافل ہیں

الَّذِينَ	هُمْ	يَرَاءُونَ ⑥	وَيَمْنَعُونَ	الْمَاعُونَ ⑦
وہ لوگ جو	وہ	وہ ریا کاری کرتے ہیں	اور وہ روکتے ہیں	استعمال کی معمولی چیزیں

آيَاتُهَا: 3	سُورَةُ الْكَوْثَرِ مَكِّيَّةٌ 15	رُكُوعُهَا: 1
--------------	-----------------------------------	---------------

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

إِنَّا	أَعْطَيْنَاكَ	الْكَوْثَرَ ①	فَصَلِّ	لِرَبِّكَ	وَأَنْحَرْ ②
بے شک ہم	عطا کی ہم نے آپ کو	کوثر	پس نماز پڑھیے	اپنے رب کے لیے	اور قربانی کیجیے

إِنَّ	شَانِعَكَ	هُوَ	الْأَبْتَرُ ③
بے شک	دشمن آپ کا	وہی	جڑ کٹا ہے

1
ع
3
33

آيَاتُهَا: 6		سُورَةُ الْكَافِرُونَ مَكِّيَّةٌ 109				رُكُوعُهَا: 1		
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ								
قُلْ	يَا أَيُّهَا	الْكَافِرُونَ ①	لَا	أَعْبُدُ	مَا	تَعْبُدُونَ ②	وَلَا	أَنْتُمْ
کہہ دیجیے	اے	کافرو	نہیں	میں	عبادت	کرتا	جس	کی
عِبَادُونَ	مَا	أَعْبُدُ ③	وَلَا	أَنَا	عَابِدٌ	مَا	عَبَدْتُمْ ④	لَا
عبادت	کرنے	والے	ہو	جس	کی	میں	عبادت	کرتا
وَلَا	أَنْتُمْ	عِبَادُونَ	مَا	أَعْبُدُ ⑤	لَكُمْ	دِينُكُمْ	وَلِي	دِينٍ ⑥
اور	نہ	تم	عبادت	کرنے	والے	ہو	جس	کی
عِبَادَاتُكُمْ	وَلِي	دِينِكُمْ	وَلِي	دِينٍ ⑥	مِيرَادِينَ	لِي	مِيرَادِينَ	ع
اور	نہ	تم	عبادت	کرنے	والے	ہو	جس	کی
آيَاتُهَا: 3		سُورَةُ النَّصْرِ مَدَنِيَّةٌ 110				رُكُوعُهَا: 1		
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ								
إِذَا	جَاءَ	نَصْرُ	اللَّهِ	وَالْفَتْحُ ①	وَرَأَيْتَ	النَّاسَ	كُلًّا	
جب	آجائے	مدد	اللہ	کی	اور	آپ	دیکھیں	
يَدْخُلُونَ	فِي	دِينِ	اللَّهِ	أَفْوَاجًا ②	فَسَبِّحْ	بِحَمْدِ	رَبِّكَ	
وہ	داخل	ہو رہے	ہیں	دین	میں	اللہ	کے	
رَبِّكَ	وَاسْتَغْفِرْهُ ③	إِنَّهُ	كَانَ	تَوَّابًا ④	تَوَّابًا ④	تَوَّابًا ④	تَوَّابًا ④	
اپنے	رب	کی	اور	بخشش	مانگیے	اس	سے	
آيَاتُهَا: 5		سُورَةُ اللَّهَبِ مَكِّيَّةٌ 111				رُكُوعُهَا: 1		
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ								
تَبَّتْ	يَدَا	أَبِي	لَهَبٍ	وَتَبَّتْ ①	مَا	أَغْنَى	عَنْهُ	
ٹوٹ	گئے	دو	ہاتھ	ابو	لہب	کے	مال	
مَالُهُ	مَالُهُ	مَالُهُ	مَالُهُ	مَالُهُ	مَالُهُ	مَالُهُ	مَالُهُ	
مال	اس	کا	مال	اس	کا	مال	اس	

وَمَا	كَسَبَ ② ط	سَيَصِلُ	نَارًا	ذَاتَ لَهَبٍ ③ ح	وَأَمْرَاتِهِ ط
اور جو	اس نے کمایا	غفریب وہ چلے گا	آگ میں	شعلے والی	اور اس کی بیوی
حَمَالَةً	الْحَطْبِ ④ ج	فِي جِيدِهَا	حَبْلٌ	مِنْ مَسَدٍ ⑤ ع	
اٹھانے والی	لکڑی کے گٹھے کو	اس کی گردن میں	رسی ہوگی	بٹی ہوئی	
سُورَةُ الْإِخْلَاصِ مَكِّيَّةٌ 22					
آيَاتُهَا: 4		رُكُوعُهَا: 1			
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ					
قُلْ	هُوَ اللَّهُ	أَحَدٌ ① ج	اللَّهُ	الصَّادِقُ ② ج	لَمْ يَلِدْ ④ ل
کہہ دیجیے	وہ	اللہ	ایک ہے	اللہ	بے نیاز ہے
وَلَمْ	يُولَدْ ③ ل	وَلَمْ	يَكُنْ	لَهُ	كُفُوًا ④ ع
اور نہ	وہ جنا گیا	اور نہیں	ہے	اس کے لیے	برابر کا
سُورَةُ الْفَلَقِ مَكِّيَّةٌ 20					
آيَاتُهَا: 5		رُكُوعُهَا: 1			
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ					
قُلْ	أَعُوذُ	بِرَبِّ	الْفَلَقِ ① ل	مِنْ شَرِّ	مَا خَلَقَ ② ل
کہہ دیجیے	میں پناہ لیتا ہوں	رب کی	صبح کے	ہر اس چیز کے شر سے	جو اس نے پیدا کی
وَمِنْ شَرِّ	خَاسِقٍ	إِذَا	وَقَبَّ ③ ل	وَمِنْ شَرِّ	النَّفَّاثِ
اور شر سے	اندھیری رات کے	جب	وہ پھیل جائے	اور شر سے	پھونکنے والیوں کے
فِي الْعُقَدِ ④ ل	وَمِنْ شَرِّ	حَاسِدٍ	إِذَا	حَسَدًا ⑤ ع	
گرہوں میں	اور شر سے	حاسد کے	جب	وہ حسد کرے	
سُورَةُ النَّاسِ مَكِّيَّةٌ 21					
آيَاتُهَا: 6		رُكُوعُهَا: 1			
بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ					

قُلْ	أَعُوذُ	بِرَبِّ	النَّاسِ ①	مَلِكِ	النَّاسِ ②
کہہ دیجیے	میں پناہ لیتا ہوں	رب کی	انسانوں کے	بادشاہ کی	انسانوں کے
إِلَهٍ	النَّاسِ ③	مِنْ شَرِّ	الْوَسْوَاسِ	الْخَنَّاسِ ④	الَّذِي
الذکی	انسانوں کے	شر سے	وسوسہ ڈالنے والے کے	بار بار پلٹ کر آنے والے کے	وہ جو
يُوسُوسُ	فِي صُدُورِ	النَّاسِ ⑤	مِنَ الْجِنَّةِ	وَالنَّاسِ ⑥	
وسوسہ ڈالتا ہے	سینوں میں	لوگوں کے	جنوں میں سے	اور انسانوں میں سے	